

ORDINANCE NO. VI OF 2025

AN

ORDINANCE

to establish the National Agri-trade and Food Safety Authority

WHEREAS, it is expedient to regulate the quality aspects of agrochemicals, agricultural produce, plants, animals, and products based thereon used as food, feed or otherwise being exported to or imported from other countries in accordance with the recognized sanitary and phytosanitary measures or quality standards and to facilitate international trade and inter-provincial trade thereof on competitive basis in the light of domestic needs and international commitments;

AND WHEREAS, the National Assembly and the Senate are not in session and the President of the Islamic Republic of Pakistan is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following Ordinance, namely:—

CHAPTER — I
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) This Ordinance shall be called the National Agri-trade and Food Safety Authority Ordinance, 2025.

(2) It extends to the whole of Pakistan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.** —In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (i) “adulterated pesticide” means a pesticide with which spurious, deleterious or harmful substance has been mixed or which is wholly or mainly ineffective for the purpose for which it is intended;
- (ii) “Advisory Committee” means the committee constituted under section 10;
- (iii) “Agricultural product” includes all produce of agriculture or horticulture, forest, and plants, all products of genetic sequencing information, single-cell proteins, and products of biotechnology intended for use food or feed and all good related to food or drink wholly or partly manufactured from any such produce;
- (iv) “agro-chemicals” includes pesticides, growth regulators, pheromones, kairomones, growth inhibitors, attractants, repellents, rodenticides, miticides, excluding fertilizers or micro-nutrients, DNA based chemicals used for traceability;
- (v) “animal” means a living thing that is not a human or plant;

- (vi) "animal products" means anything originating or made, whether in whole or in part, from an animal or from a carcass and includes blood, bones, bone marrow, casings, dairy products, eggs, honey, fat, foodstuffs of animal origin, hair, hides, horns, hooves, hormones, and their biological preparations, offal, seed materials for research purposes, semen, ova and embryos, skin, tendons, viscera, wool and any other substance of animal origin excluding germinal products, biological products and pathological material as may be specified;
- (vii) "Appellate Committee" means the Committee constituted under this Ordinance;
- (viii) "Authority" means the National Agri-trade and Food Safety Authority (NAFSA) established under this Ordinance;
- (ix) "authorized officer" means an officer nominated by the Authority under this Ordinance for exercising powers and performing functions in accordance with the provisions of this Ordinance and the rules and regulations made thereunder;
- (x) "Board" means the Board of Governors constituted under this Ordinance;
- (xi) "business operator" means a natural or legal person registered with the Authority under this Ordinance;
- (xii) "certificate" means the certificate of quality and sanitary and phytosanitary (SPS) compliance, animal health certificate, or any other certificate issued by the authorized officer to the business operator confirming compliance with the provisions of this Ordinance;
- (xiii) "Chairperson" means Chairperson of the Board;
- (xiv) "compartment" means an animal sub-population contained in one or more premises under a common biosecurity management system with a distinct health status with respect to a specific animal disease or diseases for which surveillance, control and biosecurity measures have been applied for the purpose of international trade;
- (xv) "Complaint Resolution Committee" means the complaint resolution committee constituted under this Ordinance;

- (xvi) "crop" includes all agricultural or horticultural crops and all trees, bushes, herbs, shrubs, grass, plants, roots, fungi and algae grown for commercial or recreational purposes;
- (xvii) "Department" means Animal Quarantine Department and Department of Plant Protection;
- (xviii) "Director General" means the director general of the Authority appointed under this Ordinance;
- (xix) "disease" means suffering from or carrying any infectious or contagious disease or such disease as may be declared by the Federal Government from time to time by notification in the official Gazette;
- (xx) "feed" means animal feed, including hay, roughage, concentrate or any other substance used for feeding animals;
- (xxi) "formulation" means the combination of various ingredients designed to render the product useful and effective for the purpose claimed and for the envisaged mode of application.
- (xxii) "food" means any substance, whether processed, semi-processed or raw, which is intended for human consumption and includes liquid and any substance which has been used in the manufacturing, preparation or treatment of food excluding
 - (a) medicinal products within the meaning of the Drug Regulatory Authority of Pakistan Act, 2012 (XXI of 2012);
 - (b) tobacco and tobacco products; and
 - (c) narcotic or psychotropic substances;
- (xxiii) "food safety" means safety measures taken by the Federal Government to ensure that food intended for export or import complies with applicable SPS standards;
- (xxiv) "goods" means agricultural product, agro-chemicals, animal, animal products, plant, fish, fish products, feed, food and pesticides;
- (xxv) "grade designation" means the grade designation prescribed as indicative of the quality of any product;

- (xxvi) "grade designation mark- means a mark prescribed as representing a particular grade designation;
- (xxvii) "harmful organism" means any living stage of any or all insects, mites, nematodes, protozoa, slugs, snails, or other invertebrate animals, fungi, bacteria, parasitic plants, virus or reproductive parts thereof, or any pathogen, weed, rodent, or other plant and animal organism which may, directly or indirectly, injure or cause disease to any plant or animal species;
- (xxviii) "hazard" means a biological, chemical or physical agent including bio-identical or synthetic hormones with the potential to cause an adverse effect on food safety, animal health or plant health and includes bio-identical or synthetic hormones;
- (xxix) "international standards, guidelines and recommendations" shall include, *inter-alia*,—
- (a) for food safety, the standards, guidelines and recommendations established by the Codex Alimentarius Commission;
 - (b) for animal health and zoonoses, the standards, guidelines and recommendations developed under the auspices of the World Organization for Animal Health (WOAH);
 - (c) for plant health, the international standards, guidelines and recommendations developed under the auspices of the Secretariat of the International Plant Protection Convention (IPPC) in cooperation with regional organizations operating within the framework of the (IPPC);
 - (d) for testing laboratories, the general requirements for the competence of calibration and testing laboratories laid down in ISO Standard 17025 of the International Standards Organization; and
 - (e) for matters not covered above, appropriate standards, guidelines, and recommendations adopted by other relevant international organizations;
- (xxx) "invasive alien species" means plants, animals or other organisms that cause significant harm to the environment, economy human health, where those are not native;
- (xxxi) "maximum residue limit" or "MRL" means the maximum concentration of a residue that is legally permitted or recognized as

acceptable in or on a food or agricultural commodity or animal feedstuff;

- (xxxii) "nominated department" means department or any legal entity in the provinces nominated by the provincial Government;
- (xxxiii) "notifiable animal disease" means the animal diseases of national and international concern, that must be reported to the veterinary authority within a defined time frame when suspected by owners, vets or laboratories;
- (xxxiv) "official control" means programmes, processes, procedures or mechanisms developed by the Authority for the purpose of implementing the SPS measures and control of pathogenic agents, harmful organisms, pests, pesticides or diseases as prescribed under the regulations;
- (xxxv) "person" means a natural or artificial person and may include a company, firm, association of persons, authority, or any other body corporate;
- (xxxvi) "pest" means any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants and plant products, materials or environments and includes vectors of parasites or pathogens of human and animal disease and animals causing public health nuisance;
- (xxxvii) "pesticides" means any substance or mixture of substances used or represented as a means for preventing, destroying, repelling, mitigating or controlling, directly or indirectly or any harmful organism;
- (xxxviii) "placed on the market" means the holding or displaying for sale, offering for sale, selling, delivering or any other form of placing on the market, and retail and wholesale trade;
- (xxxix) "plant" means all species of plants, crops, or parts thereof, whether living or dead, including stems, branches, tubers, bulbs, corns, stocks, bud-wood, cuttings, layers, slips, suckers, roots, aquatic algae, leaves, flowers, fruits and seeds;
- (xl) "points of entry" and "points of exit" mean any sea port, airport, dry-port or land routes respectively declared by the Federal Government designated for the import or export of any goods;

- (xli) "prescribed" means prescribed by rule or regulations made under this Ordinance;
- (xlii) "quality" means conformity to prescribed requirement or specification of a product or service;
- (xlili) "quarantine facility" means a site or premises provided or approved by the Authority for the isolation and examination of goods intended for import or export;
- (xliv) "sanitary and phytosanitary (SPS) measure" means measures to be prescribed by rules and implemented to—
 - (a) protect human life or health or environment from risks arising from harmful organisms carried by animals, plants or products based thereon, or from the entry, establishment or spread of harmful organisms including invasive alien species;
 - (b) protect animal or plant life or health from risks arising from the entry, establishment or spread of harmful organisms;
 - (c) protect human, animal or plant life or health from risks arising from additives, contaminants, residues of pesticides and veterinary drugs, toxins or disease-causing organisms in food and feed; or
 - (d) prevent or limit other damage from the entry, establishment or spread of harmful organisms including alien invasive species via trade and commerce in products to which this Ordinance applies.
- (xlv) "Scientific Committee" means the committee constituted under this Ordinance;
- (xlvi) "scientific advice" means the advice rendered by the scientific committee based on scientific evidence and knowledge under this Ordinance;
- (xlvii) "sub-standard" when used with reference to a pesticide, means any pesticide the strength or purity of which falls below the professed standard or quality which is expressed on its label or under which it is sold or a pesticide any valuable ingredient of which has been wholly or partially extracted;
- (xlviii) "WOAH" means "World Organization of Animal Health" previously known as "Office International des Epizooties" (OIE) an

intergovernmental organization and global authority on animal health.

- (xlix) "zone" means a defined part of a territory containing an animal subpopulation with a distinct health status with respect to a specific animal disease or diseases for which surveillance, control and biosecurity measures have been applied for the purpose of animal disease prevention, control or eradication and international trade.

CHAPTER II ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT

3. **Establishment of the Authority.**—(1) Upon the commencement of this Ordinance, there shall be established an authority to be known as the National Agri-trade and Food Safety Authority (NAFSA) to carry out the purposes of this Ordinance.

(2) The Authority shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal with power, to enter into contracts, acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to sue and be sued in its name.

(3) The headquarters of the Authority shall be at Islamabad and it may establish such other places in Pakistan as it may deem necessary.

4. **Board of Governors.**—(1) The general superintendence, policy direction, oversight, and all matters pertaining to the policy and administration of the Authority shall vest in the Board. The Board shall consist of a Chairperson and the following members who shall be appointed by the Prime Minister for a term of three years, namely :—

- (a) six members who are Secretaries of the department concerned with the affairs of Agriculture or livestock Departments in the Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan;
- (b) one representative each, not below the rank of Additional Secretary from division concerned with the affairs of national food security and research, climate change, commerce, science and technology and finance;
- (c) two female members with expertise in food safety, food technology, public health, agronomy, or a related field;
- (d) two members from academia or research organizations; and

- (e) three members, one each from—
 - (i) plant related trading associations;
 - (ii) animal trading associations; and
 - (iii) the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI).

(2) The Chairperson shall be a person known for his integrity and eminence having experience of not less than twelve years in any relevant field including food safety, food technology, public health, agronomy, animal health, trade and economics or a related field.

(3) The Director General of the Authority shall serve as an *ex-officio* member of the Board, having no right to vote, and shall act as the secretary of the Board.

(4) The members, other than *ex-officio* member, shall be appointed on such terms and conditions as may be determined by the Prime Minister. No person shall be appointed as a member of the Board for more than two consecutive term.

(5) The Chairperson or a member, other than the *ex-officio* members, may in writing addressed to the Prime Minister, resign from his office.

(6) The Prime Minister may remove the Chairperson or any member from office if they are found incapable of discharging their duties due to lack of interest, non-performance, or upon conviction by a court of law.

(7) The Chairperson or any member, other than an *ex-officio* member, shall be deemed to have vacated their office if they are absent without prior intimation to the Board from more than three consecutive meetings of the Board.

5. **Functions and powers of the Authority.**—(I) The Authority shall carry out its functions, namely:—

- (i) develop, apply and achieve compliance with SPS measures in relation to import, export and inter-regional trade of goods taking into account international standards, guidelines and recommendations;

- (ii) adopt and administer all acts already taken by the Federal Government with regard to SPS measures in relation to imports, exports, and inter-regional trade of goods;
- (iii) register any business operator if not already registered with any other authority or government entity in such manner as may be prescribed;
- (iv) ensure compliance with SPS standards by business operators through a system of official controls, which it may carry out at any stage of preparation of goods meant for export;
- (v) ensure compliance by business operators with track and trace or marking and grade designation requirements of goods;
- (vi) register and regulate formulation plants in such manner as may be prescribed;
- (vii) implement inspection and quarantine controls at points of entry and points of exit with regard to import and export of goods;
- (viii) constitute sub-committees as required for carrying out the purposes of this Ordinance;
- (ix) regulate, prohibit and restrict the import or export of goods likely to introduce harmful organism, invasive species, or diseases to any other goods or humans, as per the prescribed mechanism;
- (x) issuing and cancel registration or other certificates and licenses for activities requiring certificates or licenses under this Ordinance;
- (xi) supervising and monitoring business operators regarding SPS compliance, food safety and quality standards;
- (xii) coordinate with Provincial Governments to implement SPS measures for the production, transportation, storage, and marketing of goods intended for export from Pakistan, as well as for related purposes under this Ordinance;
- (xiii) prepare and implement national crisis management plans for the control of risks regarding the application of SPS measures with the coordination of the relevant Provincial authorities on such terms and conditions as may be prescribed;
- (xiv) nominate, notify or establish the accredited testing laboratories;

- (xv) submit all mandatory or voluntary documentation or reporting to the international bodies, convention, associations or organizations;
 - (xvi) management and administration of biosecurity measures applied to zones and compartments for the purposes of export certification;
 - (xvii) conduct official veterinary diagnostic tests and analysis, issuance of test results and international veterinary certificates for the purposes of international notifications of notifiable animal diseases or the export of Goods;
 - (xviii) represent Pakistan in bilateral regional and international forums related to international trade in animals and animal products;
 - (xix) international coordination and market access negotiations for export and import of goods including animals and animal products;
 - (xx) protection of endangered areas and designation, maintenance and surveillance of pest free areas and areas of low pest prevalence.
- (2) In performing its functions and exercising its powers as set out in sub-section (1), the Authority may—
- (i) engage in any study or project relating to any matter under this Ordinance and in conjunction with other authorities, international agencies or organizations;
 - (ii) levy such charges and fees for the performance of its functions in such manner as may be prescribed;
 - (iii) determine a service structure appropriate to the functions and appoint such officers and employees, advisors, consultants, experts or scientists as required necessary on such terms and conditions as may be prescribed;
 - (iv) approve annual budget estimates for the submission to the Federal Government;
 - (v) receive and manage property, income, grants, contributions made to it, raise loans and to invest any fund representing such property, grants, bequests, trusts, gifts, donations, endowments or contributions in accordance with applicable laws;
 - (vi) hold training programmes, national and international conferences, policy seminars, symposia, or awareness workshops or any other activity deemed necessary for promoting the SPS measures;

- (vii) conduct studies, surveys, experiments and analysis of data for application of the SPS measures in international trade;
- (viii) work to secure and sustain market access for goods governed under this Ordinance, and ensuring their unrestricted and continuous movement within domestic and international markets and approve digital transaction and guarantee for system generated certificate, as the case may be;
- (ix) impose penalty or fines; and
- (x) perform any other function and deal with matters and things that may be necessary or incidental thereto for the fulfilment of its functions under this Ordinance or may be assigned to it by the Federal Government, from time to time.

(3) The Authority may entrust or outsource any of its functions to a person, authority, agency or company through a contract arrangement, on such terms and conditions as may be mutually agreed.

6. **Delegation.**—The Authority may delegate any of its powers and functions under this Ordinance to the Director General or any authorized officer, except section 42, under this Ordinance, subject to such conditions as may be prescribed.

7. **Meetings of the Board.**—(1) The Board shall meet quarterly or as often as is expedient to perform its functions or on the specific advice of the Federal Government.

(2) The Chairperson, and in his absence, any other member elected by the members present at a meeting, shall preside the meeting of the Authority.

(3) The quorum of a meeting of the Board shall be simple majority of the total membership, including the Chairperson and a representative from the Ministry of National Food Security and Research.

(4) A meeting of the Authority shall be held in such manner as may be prescribed, and until so provided, as may be determined by the Authority.

(5) No act or proceeding of the Board or its committees shall be deemed invalid solely due to any vacancy or defect in their constitution.

8. **Director General.**—(1) The Federal Government shall, by notification in the official Gazette, appoint a person as Director General on such terms and conditions as may be prescribed by rules, for a term of three years. The Director General may be reappointed for another term for three years.

(2) The Director General shall be the Chief Executive Officer of the Authority and shall be responsible for the day to day administration of the affairs of the Authority and shall exercise such powers and functions as may be prescribed or assigned to him by the Authority.

9. **Scientific Committee.**—(1) There shall be a scientific committee of the Authority which shall be responsible for rendering scientific or technical advice on matters referred by the Board or the Director General.

(2) The Board shall establish operational guidelines for the Scientific Committee.

(3) The scientific committee shall comprise of a minimum of fifteen (15) eminent scientists from the public and private sector who shall be appointed by the Authority for a term of three years on such terms and conditions as may be prescribed.

(4) The Authority shall appoint the convener of the scientific committee from amongst its members.

(5) If a subject requiring advice from the Scientific Committee falls outside the expertise of its members, the Scientific Committee may recommend to the Board or the Director General that the matter be referred to any other committee established under this Ordinance.

(6) The Board or the Director General, as the case may be, shall take into account the scientific advice, which shall be binding only with respect to the issues specifically referred by the Board.

(7) The Scientific Committee may, on its own initiative, provide technical or scientific advice to the Board or the Director General:

Provided that such advice shall not be binding on the Board or the Director General.

10. **Advisory Committees.**—(1) The Board shall establish as many Advisory committees as it deems appropriate for various trades and subjects and shall be responsible for improving the existing SPS standards, monitoring maximum residual limits (MRLs) of pesticides and other chemicals, assessing the storage and post-harvest losses, improvement in farm practices, transportation, inter-regional trade of goods, providing training and awareness, provincial coordination or and carrying out any other functions as directed by the Authority.

(2) The Board shall establish the operational guidelines for the advisory committees.

(3) The advisory committee shall comprise of representatives of the Federal and provincial governments, experts in the subject area and relevant stakeholders from public and private sector.

(4) The Board shall appoint the convener of the advisory committee from amongst its members.

11. Remuneration and expenses.— (1) The Authority shall pay such remuneration to the Director General and its employees as may be prescribed.

(2) The Authority shall pay such meeting fees, expenses or remuneration, as the case may be, as may be prescribed, to the Chairperson, members of the Board and the Committees, constituted under this Ordinance.

CHAPTER III FOOD SAFETY AND SPS MEASURES

12. Requirement to comply with the SPS measures.—The goods intended for import or export shall comply with the SPS measures under this Ordinance as may be prescribed.

13. Inter-regional trade.—(1) The inter-regional trade in goods between provinces shall comply with the SPS and food safety standards.

(2) The Authority shall advise provinces to adopt uniform SPS measures and food safety standards.

(3) The Authority shall notify provinces of risks associated with the regional movement of food, feed, or animals, as may be prescribed.

(4) Any dispute arising between provinces regarding compliance with SPS measures or food safety standards, or associated risks to human, plant, or animal health, shall be referred to the advisory committee for resolution and, if required so, to the Scientific Committee for technical advice.

14. Import and export of agricultural products, food, feed, animal and animal products.—(1) Notwithstanding any provisions contained in this Ordinance, the Authority shall have the power to recognize, assess, and notify SPS certificates. The Authority may, based on scientific advice, impose special conditions on any country whose SPS measures are deemed unsatisfactory to safeguard plant, animal and human health within Pakistan.

(2) No goods shall be imported into Pakistan unless accompanied by a certificate issued by the relevant authority of the exporting country, certifying compliance with the SPS conditions notified under sub-section (1).

(3) All goods in transit through the territory of Pakistan for transportation to another destination shall be subject to the applicable SPS conditions.

(4) Transit of banned pesticides, genetically modified organisms (GMOs) which are not regulated by the National Biosafety Committee (NBC) of Pakistan and unlicensed food or seeds, shall not be allowed.

15. Appointment of authorized officers.—(1) The Authority may appoint such number of officers as authorized officers as may be necessary for the performance of its functions under this Ordinance.

(2) Subject to the provisions of this Ordinance and the regulations made thereunder, the Authority may confer the powers of the Authorized Officers, as may be prescribed, upon any officers of the Authority, Federal Government, Provincial Government or any other statutory entity established by the Federal or Provincial government.

16. Powers of authorized officers:—(1) Subject to provisions of this Ordinance, the authorized officer may,—

- (a) at any reasonable hour or whenever work is in progress in any establishment in which goods are believed to be produced, stored, processed or packaged for export, enter that establishment for the purposes of carrying out official controls so as to determine compliance with the SPS measures, animal health or food safety;
- (b) inspect or examine goods in any establishment to which this Ordinance applies, or which is used or capable of being used for the preparation of goods for export purposes and shall take samples thereof for laboratory analysis;
- (c) stop and search any person, luggage, vehicle, vessel, railway wagon, or aircraft at any point of entry or exit carrying goods subject to this Ordinance, examine such goods and take samples thereof;

- (d) require disinfection of any premises, aircraft, railway wagon, carriage, vessel or vehicle of any description used for carrying animals or animal products;
- (e) inspect the goods for compliance with the prescribed grade designation and marking;
- (f) call for such books, documents or other records in any medium whatsoever which he believes to contain any information or data relevant to the enforcement of the provisions of this Ordinance with respect to the goods, make copies thereof and take extracts there from;
- (g) seize or detain for such time, as may be necessary, the goods by means of, or in relation to which, he is of the opinion that the provisions of this Ordinance have been contravened and shall, at the time of seizure or detention, inform, in writing, the business operator or the person from whose possession the seizure or detention is made, of the grounds for the said action;
- (h) prohibit the export of animals which does not compliant to SPS measure or other specified conditions to carry;
- (i) deport any animal or animal products, at the expense of the person importing such animal or animal product, the import of which is prohibited by the Federal Government;
- (j) transfer goods to a quarantine facility for such time period as may be prescribed;
- (k) ensure that the prescribed conditions are followed in the quarantine facility;
- (l) direct business operators or importer or exporter, as the case may be to conduct the prescribed tests, processes, or procedures on Goods and order their destruction if such tests confirm the presence of any harmful organism or disease;
- (m) order disposal of clothing, fittings, fodder, harness, container or litter that may have been in contact with, or pertaining to, diseased animals or animal products;
- (n) conduct survey of goods processing plants with a view to determine their fitness for registration and their observance with the provisions of this Ordinance;

- (o) seek assistance from a police officer or officer of any law enforcement agency for use of force that is reasonably necessary while carrying out his functions under this Ordinance; and
- (p) exercise any other function assigned to him by the Authority.

17. **Transparency.**— (1) The Authority may conduct consultative and stakeholder consultation compliance to international commitments and market access, during the preparation, evaluation and revision of SPS measures under this Ordinance.

(2) Without prejudice to any other law for the time being in force, where there are reasonable grounds to suspect that Goods may present a risk for human health, animal health and plant health, then depending on the nature, seriousness and extent of that risk, the Authority shall take appropriate steps to inform the business operator and, if necessary, the general public, of the nature of the risk to human health, animal health, plant health or identifying to the fullest extent possible the risk that the Goods may present, and the measures which are taken or about to be taken to prevent, reduce or eliminate that risk.

(3) Without prejudice to any other law, the Authority shall prescribe internal accountability mechanism to prevent the misuse of funds, power or authority under this Ordinance.

CHAPTER - IV JURISDICTION, OFFENCES AND PENALTIES

18. **Aiding or abetting and offence under section 20.**—Any person who by any means whatsoever attempts or aid or abets the commission of an offence under section 20 shall be punishable with the same punishment as provided for the offence itself.

19. **Offences by companies, etc.**—Where an offence punishable under section 20 has been committed by a company, any person who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as any director or partner of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Ordinance if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

20. **Offences.**—A person shall be guilty of an offence under this Ordinance, if he—

- (i) imports or causes the importation of any animal or animal product from a country or territory from where such import is banned or prohibited due to the presence or suspected presence, or risk of transmission of specified disease;
- (ii) imports or exports any animal without a valid health certificate issued by the competent authority of the exporting country, or with a fake, forged, or fraudulent certificate;
- (iii) imports, manufactures, formulates, sells, offer for sell, hold in stock for sale, or advertise for sale an adulterated pesticide;
- (iv) refuses to permit inspection of a formulation plant;
- (v) supplies animal or animal product from, or process animal product in, any establishment or premises which is not approved or registered for that particular export;
- (vi) denies to quarantine the animals as required under this Ordinance or regulations thereunder;
- (vii) removes animal, animal products from a quarantine facility or shift the same to some other unapproved premises;
- (viii) stores or process sub-standard pesticides or agrochemicals;
- (ix) exports the animals and animal products without observing the sanitary requirements of the importing country;
- (x) submits fake or forged lab reports, pre-shipment inspection report, manufacturing certificate, country of origin certificate regarding quantity, quality or type of goods;
- (xi) fails to report any disease, pathogen associated with imported plant, plant material or animal in quarantine facility;
- (xii) fails to submit report, data or any other documents required by the Authorize Officer about imported goods in quarantine facility;
- (xiii) plants plant and plant material at unregistered quarantine facility;
- (xiv) imports or store banned agrochemicals pesticides;

- (xv) imports and stores hazardous pesticides without due precautions;
- (xvi) denies to perform SPS measures or fulfill special conditions;
- (xvii) willfully obstructs, hinders or resists the Authorized Officer from carrying out a function under this Ordinance;
- (xviii) stores or process adulterated pesticides or agrochemicals;
- (xix) wilfully obstructs, hinders or resists the police officer or officer of law enforcing agenies assisting the Authorized Officer, in carrying out a function under this Ordinance;
- (xx) imports, manufactures, formulates, sells, offers for sale, holds in stock for sale or advertises for sale an adulterated or banned pesticide;
- (xxi) sells, offers to sale, stores or holds unregistered, fake, adulterated expired agrochemicals or pesticides in market;
- (xxii) attempts to import or export without the required documents or attempting to import or export undeclared goods;
- (xxiii) refuses to comply with special conditions of importing country;
- (xxiv) imports any animal without declaring and registering a quarantine facility;
- (xxv) sells or offers to sale agrochemicals and pesticides with incomplete label and seal of pesticide containers, bags or similar items;
- (xxvi) wilfully conceals a fact, makes a false statement to, or misleads, the Authorized Officer who is carrying out a function under this Ordinance or regulations; and
- (xxvii) denies to show prescribed register, areas, stores, labs etc.

21. **Penalties.**—Whosoever contravene any provision of section 20, shall be in case of contravention of clauses,—

- (i) (i), (ii), (iii) or (iv) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to three million rupees or with both and where an accused was directed by the Authorized Officer for immediate discontinuance of the offence, the Court may impose a further fine

which may extend to fifty thousand rupees for every day for the period the offence continues;

- (ii) (v), (vi), (vii) and (viii) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to two million rupees or with both and where an accused was directed by the authorized officer for immediate discontinuance of the offence, the Court may impose a further fine which may extend to twenty five thousand rupees for every day for the period the offence continues;
- (iii) (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx) or (xxi) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to one million rupees or with both and where an accused was directed by the Authorized Officer for immediate discontinuance of the offence, the Court may impose a further fine which may extend to ten thousand rupees for every day for the period the offence continues; and
- (iv) (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxv), (xxvi) or (xxvii) shall be liable to pay fine which may extend to five hundred thousand rupees and where an accused was directed by the authorized officer for immediate discontinuance of the offence, the Court may impose a further fine which may extend to one thousand rupees for every day for the period the offence continues.

22. **Cognizance of offences.**—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898), the Court of Sessions shall take cognizance of any offence punishable under section 20, on a complaint in writing made by the Director General or an Authorized Officer.

(2) For the purposes of trial appeal etc. the provisions of Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) shall *mutatis mutandis* apply.

23. **Disposal of forfeited goods.**—Any goods forfeited on conviction of a person by the Court under this Ordinance shall be disposed of by the Authority at the cost of the convicted person or business operator as the case may be, in the prescribe manner.

24. **Complaint resolution committee.**—(1) The Authority shall constitute a complaint resolution committee and establish a mechanism for the redressal of complaints arising from the refusal of registrations or licenses or certificates by the Authority, or any other matters as may be prescribed.

(2) The Authority shall prescribe the procedure and related matters concerning the complaint resolution committee.

(3) Any person or business operator feeling aggrieved of any order of the Authority or the Authorized Officer under this Ordinance, may file application within thirty days for redressal of his grievances before the complaint resolution committee in the prescribed manner.

25. Appellate Committee.—(1) The Authority shall constitute an appellate committee and prescribe a mechanism for redressal of all appeals against the decisions of the complaint resolution committee.

(2) Any person or business operator aggrieved by any decision of the complaint resolution committee may file an appeal within thirty days of passing of such order before the appellate committee.

26. Bar of jurisdiction.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and except as provided under this Ordinance, no decision or action taken under this Ordinance or rules or regulations made thereunder shall be questioned by any agency or challenged in any court or tribunal, nor shall any injunction be granted against such decisions or actions.

CHAPTER V COORDINATION WITH PROVINCIAL GOVERNMENTS

27. Coordination with Provincial Governments.—The Authority shall,—

- (a) require the nominated department of provincial governments to prepare an annual programme of official control activities in relation to matters falling within the jurisdiction of the department as set out in sub-section (1) of section 5 and submit the same to the Authority, specifying,—
 - (i) the type of control activities to be carried out; and
 - (ii) the criteria applied in drawing up the programme;
- (b) communicate policy guidelines and policy decisions made or taken by the Board for their compliance in the respective provinces relating to the SPS measures, animal health, pesticide regulation and food safety.

- (c) publish model regulations, guidelines and manuals with regard to the application of the SPS measures to be adopted by Provincial Governments; and
- (d) facilitate harmonization of provincial laws, rules and regulations relating to the SPS measures required for obtaining and sustaining market access.

EMERGENCIES AND CRISIS MANAGEMENT

28. **Emergency measures for ensuring SPS conditions.**—(1) Where the nominated department of provincial government knowing that any goods are likely to constitute a serious risk to human health, animal health or plant health and that such risk cannot be contained satisfactorily by means of measures taken under the provisions of this Ordinance, or other laws for the time being in force, the nominated department shall immediately adopt one or more of the following measures, depending on the gravity of the situation

- (a) in the case of goods of national origin
 - (i) ensure the suspension of the placing on the market or use of the agricultural product, food or feed in question;
 - (ii) lay down special conditions for the agricultural product, food or feed in question;
 - (iii) use its best endeavors to identify the source of the hazard, and take measures to prevent its future occurrence;
 - (iv) any other appropriate interim measure; and
 - (v) inform the Authority about the measures taken in this regard; and
- (b) in the case of imported goods, the Authority may take additional measures to—
 - (i) inform the relevant authorities in the country of origin or transit responsible for official control of the hazard identified;
 - (ii) ensure the suspension of the placing on the market or use of that goods;
 - (iii) suspend import of that goods from the country concerned and, where applicable, from the country of transit;

- (iv) lay down special conditions for the future import of that goods from the country concerned; and
 - (v) any other measure deemed appropriate.
- (2) The actions taken under sub-section (1) shall be subject to—
- (a) approval of the Board;
 - (b) information to the nominated department of Provincial Governments;
 - (c) information to the business operators; and
 - (d) information to such other department including the Customs Department.

CHAPTER — VI
LABORATORY TESTING FACILITIES

29. **Laboratory analysis of samples.**—(1) The samples collected for analysis under section 16 for the purpose of official control, testing of agrochemicals, animal diseases, food safety and SPS measures shall be analyzed by a testing laboratory notified under this section.

(2) The Authority may notify any accredited testing laboratory established in the private or public sector, a university laboratory, a research organization laboratory, or a laboratory established by the Federal or Provincial Government for conducting all tests including for official control of SPS conditions.

(3) The Authority may establish testing laboratories or recognize any existing laboratory where it is expedient to perform the functions under this Ordinance.

(4) The Authority shall maintain and publish in the official Gazette the list of testing laboratories notified under this section.

(5) The samples collected under section 16 for the purpose of official control of food safety, animal, pesticides or SPS conditions etc., shall be transmitted to the notified laboratory by the authorized officer that shall carry out its functions on such terms and conditions as may be prescribed.

30. **Accreditation of testing laboratories.**—(1) All testing laboratories designated for official controls, food safety, SPS conditions, and agrochemical

testing shall adhere to the general requirements for competence of calibration and testing laboratories as prescribed in the latest ISO Standard of the International Standards Organization, or any superseding standard. Such competence shall be accredited by the Pakistan National Accreditation Council (PNAC) or any accreditation body that is a signatory to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the purpose of conducting sample analysis.

(2) The laboratories shall only be notified for the testing methods and parameters, which are within the scope of their accreditation.

CHAPTER — VII FUND AND AUDIT AND ACCOUNTS

31. **The Fund.**—(1) There shall be a non-lapsable fund of Authority to be called as National Agri-trade and Food Safety Authority Fund, which shall be utilized for the performance of its functions under this Ordinance, including the payment of remuneration, salaries, and all other expenses of the Authority.

(2) The Fund shall consist of,—

- (a) seed money provided by the Federal Government;
- (b) sums as the Federal Government may, from time to time, allocate to the Authority in the annual budget or otherwise;
- (c) any financial allocation made by the Federal Government from any fund or revenue received in relation to the promotion of exports, such as the Export Development Fund or from imports;
- (d) endowments, donations, contributions, bequests, trusts and grants provided by domestic and international institutions and organizations;
- (e) loans, aid and assistance in any form and from any source as approved by the Board;
- (f) income from sales, subscriptions or royalties of publications and remuneration for professional services rendered by the officers, researchers, advisors and experts of the Authority;
- (g) charges and fees levied for, and the fine received under, the performance of control functions;

- (h) income from investments, if any, made in the schemes of the Federal Government as approved by the Board;
- (i) all other sums or properties which may in any manner become payable to, or vest in the Authority, in respect of any matter; and
- (j) any surplus of receipts over the actual expenditure in a year shall be remitted to the Federal Consolidated Fund and any deficit from the actual expenditure shall be made-up by the Federal Government.

(3) Subject to the Public Finance Management Act, 2019 all funds of the Authority shall be kept and deposited in one or more accounts maintained by it, in local or foreign currency, in any scheduled bank and shall be operated as approved and directed by the Board.

32. **Audit.**—(1) The Auditor General of Pakistan shall annually audit the accounts of the Authority.

(2) The Government may, in addition to the audit under sub-section (1), cause the accounts of the Authority to be annually audited by a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants and, at any time, appoint a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants, to conduct an additional external audit of the accounts of the Authority and submit its report to the Government

(3) The Authority shall produce all books of accounts and documents and furnish such explanation and information as an auditor may require for purposes of audit.

CHAPTER – VIII General and Miscellaneous Provisions

33. **Ordinance to override other laws.**—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force. In case of any inconsistency, the provisions of this Ordinance shall prevail.

34. **Repeal and savings.**—(1) After the commencement of this Ordinance, the following laws shall stand repealed on such date the Federal Government may by notification in the official Gazette appoint, namely:—

- (i) the Pakistan Plant Quarantine Act, 1976 (LXXV of 1976);
- (ii) the Pakistan Animal Quarantine (Import and Export of Animals and Animal Products) Ordinance, 1979 (XLIX of 1979);

(iii) the Agricultural Pesticides Ordinance, 1971 (II of 1971); and

(iv) the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937).

(2) The Federal Government may, by notification in the official Gazette, specify the law which is required to be repealed under sub-section (1) from the date specified in the notification.

(3) Anything done, action taken, permitted, granted licence or applications made, obligations or liabilities incurred, rights and assets acquired, persons appointed or authorised, jurisdiction or powers conferred, order issued under any of the provisions of the repealed laws and the rules or regulations made thereunder shall continue and be deemed to be as if that were taken or provided under this Ordinance unless repealed or amended.

35. Members, officers and officials, etc., to be public servants.—The Chairperson, Director General, members, officers, of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Ordinance or regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860).

36. Access to statistical data and information, etc.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Authority shall have the right to obtain and access data, statistic and information relating to imports and exports of goods based thereon from a business operator that may be necessary, as for official use and analysis.

37. Validity of proceedings.—No act or proceedings shall be invalid by reason only of existence of a vacancy, or defect, in the constitution of the Authority, Board, scientific committee or advisory committee:

Provided that the invalidity shall be validated within six months by the Board or the Committee as the case may be.

38. Abolishment of Departments.—(1) On the appointed date under section 34, the Animal Quarantine Department and the Department of Plant Protection shall stand abolished.

(2) On the appointed date all assets, liabilities, rights, obligations, patents, licenses, and interests of the departments shall stand transferred to the Authority upon its establishment, subject to such terms and conditions as may be specified by the Federal Government.

(3) Every employee of the departments specified in sub-section (1) shall be given an irrevocable option, within six months of commencement of this Ordinance, either to continue on the same terms and conditions applicable to them or to opt for absorption in the service of the Authority:

Provided that all those civil servants who do not exercise option under this sub-section within the period of six months shall stand transferred to the surplus pool of the Establishment Division and other employees shall continue on the existing terms and conditions in the Authority and if their contract is still intact it shall not be subject to extension further.

39. Transition period.—The trade-related functions performed by the Department of Plant Protection and the Animal Quarantine Department shall continue for a period not exceeding six months from the appointed date under section 34, during which the Authority shall make its regulations and appoint employees.

40. Power to make rules.—Subject to this Ordinance, the Federal Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

41. Power to make regulations.—The Authority with the previous approval of the Federal Government may by notification in the official Gazette make regulations for carrying out the purposes of this Ordinance.

42. Confidentiality of data.—(1) Subject to the Right of Access to Information Act, 2017 (XXXIV of 2017), no information relating to any business operator, obtained by the Authority in the course of official controls under this Ordinance, shall be disclosed without the prior written consent of the business operator, except—

- (a) in accordance with the directions of the Board, to the extent necessary for the purposes of this Ordinance;
- (b) for the purposes of any proceedings for an offence under this Ordinance, or for any report of such proceedings; or
- (c) in compliance with an order of a court of competent jurisdiction.

(2) Any person who discloses information in contravention of sub-section (1) shall be liable for proceedings of misconduct in accordance with the provisions of this Ordinance or regulations made thereunder.

43. Removal of difficulties.—If a difficulty arises in giving effect to any provision of this Ordinance, the Federal Government may make such order,

not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for the purpose of the removal of such difficulty:

Provided that the power under this section shall not be exercised after two years of the commencement of this Ordinance.

(iii) the Agricultural Pesticides Ordinance, 1971 (II of 1971); and

(iv) the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (I of 1937).

(2) The Federal Government may, by notification in the official Gazette, specify the law which is required to be repealed under sub-section (1) from the date specified in the notification.

(3) Anything done, action taken, permitted, granted licence or applications made, obligations or liabilities incurred, rights and assets acquired, persons appointed or authorised, jurisdiction or powers conferred, order issued under any of the provisions of the repealed laws and the rules or regulations made thereunder shall continue and be deemed to be as if that were taken or provided under this Ordinance unless repealed or amended.

35. Members, officers and officials, etc., to be public servants.—The Chairperson, Director General, members, officers, of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Ordinance or regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860).

36. Access to statistical data and information, etc.—Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Authority shall have the right to obtain and access data, statistic and information relating to imports and exports of goods based thereon from a business operator that may be necessary, as for official use and analysis.

37. Validity of proceedings.—No act or proceedings shall be invalid by reason only of existence of a vacancy, or defect, in the constitution of the Authority, Board, scientific committee or advisory committee:

Provided that the invalidity shall be validated within six months by the Board or the Committee as the case may be.

38. Abolishment of Departments.—(1) On the appointed date under section 34, the Animal Quarantine Department and the Department of Plant Protection shall stand abolished.

(2) On the appointed date all assets, liabilities, rights, obligations, patents, licenses, and interests of the departments shall stand transferred to the Authority upon its establishment, subject to such terms and conditions as may be specified by the Federal Government.

(3) Every employee of the departments specified in sub-section (1) shall be given an irrevocable option, within six months of commencement of this Ordinance, either to continue on the same terms and conditions applicable to them or to opt for absorption in the service of the Authority:

Provided that all those civil servants who do not exercise option under this sub-section within the period of six months shall stand transferred to the surplus pool of the Establishment Division and other employees shall continue on the existing terms and conditions in the Authority and if their contract is still intact it shall not be subject to extension further.

39. Transition period.—The trade-related functions performed by the Department of Plant Protection and the Animal Quarantine Department shall continue for a period not exceeding six months from the appointed date under section 34, during which the Authority shall make its regulations and appoint employees.

40. Power to make rules.—Subject to this Ordinance, the Federal Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

41. Power to make regulations.—The Authority with the previous approval of the Federal Government may by notification in the official Gazette make regulations for carrying out the purposes of this Ordinance.

42. Confidentiality of data.—(1) Subject to the Right of Access to Information Act, 2017 (XXXIV of 2017), no information relating to any business operator, obtained by the Authority in the course of official controls under this Ordinance, shall be disclosed without the prior written consent of the business operator, except—

- (a) in accordance with the directions of the Board, to the extent necessary for the purposes of this Ordinance;
- (b) for the purposes of any proceedings for an offence under this Ordinance, or for any report of such proceedings; or
- (c) in compliance with an order of a court of competent jurisdiction.

(2) Any person who discloses information in contravention of sub-section (1) shall be liable for proceedings of misconduct in accordance with the provisions of this Ordinance or regulations made thereunder.

43. Removal of difficulties.—If a difficulty arises in giving effect to any provision of this Ordinance, the Federal Government may make such order,

not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for the purpose of the removal of such difficulty:

Provided that the power under this section shall not be exercised after two years of the commencement of this Ordinance.


Statement of Objects and Reasons

The **Department of Plant Protection (DPP)** and the **Animal Quarantine Department (AQD)** are primarily responsible for regulating agricultural trade at the entry and exit points of Pakistan. At the same time, agro-based exports are governed by a number of international conventions and treaties. Although Pakistan is a signatory to these global agreements and forums, our outdated laws and limited institutional capacity have made it difficult to enforce the compliance standards required by international buyers. Moreover, our policy framework is not aligned with international best practices.

As a result, Pakistan's exports often face restrictions in various markets or suffer interceptions due to quality issues or the presence of chemical residues.

Against this backdrop, the **Ministry of National Food security and Research (NFSR)** envisages a major reform initiative through the introduction of a new law that comprehensively covers agro-trade and incorporates provisions to meet evolving international standards. This includes protecting local fauna and flora, while developing a regulatory framework aligned with global **Sanitary and phytosanitary (SPS)** measures.

The aim is that the establishment of the **National Agri-trade and food safety Authority (NAFSA)** will serve as a strategic and take necessary steps in modernizing Pakistan's regulatory infrastructure. This reform is expected to enhance agro-based trade, improve access to high-end international markets, and ensure the protection of local biodiversity, including both flora and fauna.



(Rana Tanveer Hussain)
Federal Minister


Statement of Objects and Reasons

The **Department of Plant Protection (DPP)** and the **Animal Quarantine Department (AQD)** are primarily responsible for regulating agricultural trade at the entry and exit points of Pakistan. At the same time, agro-based exports are governed by a number of international conventions and treaties. Although Pakistan is a signatory to these global agreements and forums, our outdated laws and limited institutional capacity have made it difficult to enforce the compliance standards required by international buyers. Moreover, our policy framework is not aligned with international best practices.

As a result, Pakistan's exports often face restrictions in various markets or suffer interceptions due to quality issues or the presence of chemical residues.

Against this backdrop, the **Ministry of National Food security and Research (NFSR)** envisages a major reform initiative through the introduction of a new law that comprehensively covers agro-trade and incorporates provisions to meet evolving international standards. This includes protecting local fauna and flora, while developing a regulatory framework aligned with global **Sanitary and phytosanitary (SPS)** measures.

The aim is that the establishment of the **National Agri-trade and food safety Authority (NAFSA)** will serve as a strategic and take necessary steps in modernizing Pakistan's regulatory infrastructure. This reform is expected to enhance agro-based trade, improve access to high-end international markets, and ensure the protection of local biodiversity, including both flora and fauna.



(Rana Tanveer Hussain)
Federal Minister

۱۱

قومی زرعی-تجارت و تحفظ خوارک اتھارٹی کے قیام

کابل

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ زرعی کیمیائی، زرعی پیداوار، نباتات، حیوانات اور ان پر منحصر مصنوعات جو بطور خوراک، چارہ استعمال ہوتی ہیں یا علاوہ ازیں دیگر ممالک سے حفظان صحت اور پودوں کی صحت سے متعلق اقدامات یا کوالٹی کے معیارات کی مطابقت میں درآمد یا برآمد ہو رہی ہیں، کو مقامی ضروریات اور بین الاقوامی وعدوں کی روشنی میں اس کی بین الاقوامی تجارت کو مسابقتی بنیادوں پر باسہولت کرنے کے لیے تاکہ اس کے معیاری پہلوؤں کو منضبط کیا جاسکے۔

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

باب- ایک

ابتدائیہ

۱- مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ قومی زرعی-تجارت اور تحفظ

خوراک ایکٹ، ۲۰۲۵ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ کل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲- تعریفات:- اس ایکٹ میں تا وقتیکہ کوئی شے سیاق و سباق یا متن کے منافی نہ ہو:-

(ایک) ”ملاوٹ شدہ کیڑے مار دوا“ سے مراد وہ کیڑے مار دوا ہے جس میں جعلی، مضر،

نقصان دہ مادہ ملا یا گیا ہو یا جو اس مقصد کے لیے مکمل یا بنیادی طور پر غیر موثر ہو جو

اس کا مقصد ہے؛

(دو) ”مشاورتی کمیٹی“ سے دفعہ ۱۰ کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی مراد ہے؛

5/

(تین) ”زرعی مصنوعات“ میں تمام زرعی پیداوار یا باغبانی، جنگلات اور نباتات، جینیاتی ترتیب سے متعلق معلومات، سنگل خلیائی پروٹین اور بائیوٹیکنالوجی کی مصنوعات جن کا مقصد بطور خوراک یا چارہ استعمال کرنا ہو اور تمام ایشیا جو خوراک یا مشروب میں کھلی یا جزوی طور پر کسی بھی مذکورہ عمل سے تیار کی گئی ہوں، شامل ہیں؛

(چہارم) ”زرعی کیمیائی“ میں کیڑے مار ادویات، نشوونما کے ریگولیٹر، فیرومونز، کائیرامونز، مانع نشوونما، راغب کرنے والی، دافع کرنے والی، چوہے مار ادویات، جراثیم کش ادویات، اس میں کھادیں یا مائیکرو نیوٹریشن، DNA پر مشتمل کیمیکل جو کہ سراغ لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں شامل نہیں ہیں؛

(پانچ) ”حیوانات“ سے مراد جاندار شے جو انسان یا نباتات نہ ہوں؛

(چھ) ”مصنوعہ حیوانات“ سے مراد کوئی بھی شے پیدا کی گئی ہو یا بنائی گئی ہو، خواہ کھلی یا جزوی طور پر، جانوروں سے یا ان کے ڈھانچے سے، جس میں خون، ہڈیاں، ہڈیوں کا گودا، ڈھانچہ، دودھ کی مصنوعات، انڈے، شہد، چربی، جانوروں سے بننے والی خوراک، بال، چمڑہ، سینگھ، گھر، ہارمونز اور ان کے بائیولوجیکل، جنین، جلد، نسس، پیٹ کے اندرونی نرم اعضاء، اون، اور جانوروں سے اخذ کردہ کوئی بھی دیگر ایشیا اس میں جراثیمی مصنوعات، بائیولوجیکل مصنوعات اور پیٹھالوجیکل مواد شامل نہیں ہے جیسا کہ صراحت کی جاسکتی ہے؛

(سات) ”اپلیٹ کمیٹی“ سے دفعہ ۲۵ کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی مراد ہے؛

(آٹھ) ”اتھارٹی“ سے دفعہ ۳ کے تحت قائم کردہ زرعی-تجارت اور تحفظ خوراک اتھارٹی

(NAFSA) مراد ہے؛

(نو) ”افسر مجاز“ سے دفعہ ۱۵ کے تحت اتھارٹی کی جانب سے نامزد کردہ افسر مراد ہے؛

(دس) ”بورڈ“ سے دفعہ ۴ کے تحت تشکیل کردہ گورنرز کا بورڈ مراد ہے؛

(گیارہ) ”کاروبار چلانے والا“ سے دفعہ ۵ کی شق (سوم) کی ذیلی شق (ایک) کے تحت اتھارٹی

کے پاس رجسٹرڈ کردہ ایک حقیقی یا قانونی شخص مراد ہے؛

(بارہ) ”سرٹیفکیٹ“ سے معیار اور ایس پی ایس کی تعمیل کا سرٹیفکیٹ، جانور کی صحت کی بابت

سرٹیفکیٹ یا کوئی بھی دیگر سرٹیفکیٹ جسے افسر مجاز کاروبار چلانے والے کو جاری کرے جو اس ایکٹ کے احکامات کی تعمیل کی تصدیق کرتا ہو، مراد ہے؛

(تیرہ) ”چیئر پرسن“ سے دفعہ ۴ کے تحت تقرر کردہ بورڈ کا چیئر پرسن مراد ہے؛

(چودہ) ”ڈبہ“ سے جانوروں کی ذیلی آبادی جو مشترکہ بائیوسیکورٹی مینجمنٹ سسٹم کے تحت مخصوص جانوروں کی بیماری یا بیماریوں کے حوالے سے جو ایک الگ حالت صحت میں ہوں تو ایک یا ایک سے زائد احاطوں میں رکھنا ہو، جن میں بین الاقوامی تجارت کے مقصد کے لیے نگرانی، کنٹرول اور بائیوسیکورٹی اقدامات کا اطلاق کیا گیا ہو، مراد ہے؛

(پندرہ) ”تصفیہ شکایت کمیٹی“ سے دفعہ ۲۳ کے تحت تشکیل کردہ کمیٹی مراد ہے؛

(سولہ) ”فصل“ سے تمام زرعی یا باغبانی والی فصلیں اور تمام درخت، جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں، گھاس، پودے، جڑیں، پھپھوندی اور کائی جو تجارتی یا تفریحی اغراض کے لیے اگائی گئی ہوں، شامل ہیں؛

(سترہ) ”محکمہ“ سے قرظینہ حیوانات اور تحفظ نباتات کا محکمہ مراد ہے؛

(اٹھارہ) ”ڈائریکٹر جنرل“ سے دفعہ ۸ کے تحت تقرر کردہ اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل مراد ہے؛

(انیس) ”مرض“ سے مراد کسی متعدی یا ایسی تیزی سے پھلنے والی بیماری میں مبتلا ہونا یا اسے لے جانا، جیسا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے اعلان کیا گیا ہو؛

(بیس) ”خوراک“ سے جانوروں کی خوراک مراد ہے، جس میں گھاس، پھوس، خشک کی ہوئی خوراک یا کوئی دیگر مادہ جو جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال ہوتا ہو، جس میں پولٹری فیڈ شامل ہے؛

(ایکس) ”فارمولیشن“ سے مراد مختلف اجزاء کا امتزاج جو دعویٰ کردہ غرض کے لیے مصنوعہ کو

کارآمد اور موثر بنانے کے لیے اور بیان کردہ طریقہ کار کے اطلاق کے لیے تیار کیا گیا ہو؛

(باہیس) ”خوراک“ سے کوئی شے، خواہ تیار کردہ ہو، نیم تیار کردہ یا خام ہو جو انسانی استعمال کے

لیے تیار کی گئی ہو، مراد ہے اس میں مشروب اور کوئی شے جو کہ بنانے میں یا تیاری میں

استعمال ہوئی ہو، یا کسی عمل سے گزارنے میں استعمال ہوئی ہو، اس میں حسب ذیل شامل نہیں ہیں؛

(الف) ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی پاکستان ایکٹ، ۲۰۱۲ (۲۱ بابت ۲۰۱۲) کے مفہوم میں ادویاتی مصنوعات؛

(ب) تمباکو اور تمباکو کی مصنوعات؛ اور

(ج) نارکوٹکس یا دماغ پر اثر انداز ہونے والی اشیاء؛

(تیس) ”تحفظ خوراک“ سے وفاقی حکومت کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کہ درآمد یا درآمد کردہ خوراک قابل اطلاق حفظان صحت اور نباتی حفظان صحت کے معیارات پر پوری اترتی ہو، مراد ہے؛

(چوبیس) ”سامان“ سے زرعی مصنوعہ، زرعی کیمیائی، حیواناتی، جانوروں کا مصنوعہ، نباتات، مچھلی، مچھلی کا مصنوعہ، چارہ، خوراک، کیڑے مار ادویات، مراد ہیں؛

(پچیس) ”درجہ بندی معین کرنا“ سے صراحت کردہ نام، جو کسی بھی مصنوعہ کے معیار کو ظاہر کرے، مراد ہے؛

(چھبیس) ”درجہ بندی معین کرنے کا نشان“ سے صراحت کردہ نشان مراد ہے جو کہ مخصوص درجہ بندی معین کرنے کو ظاہر کرتا ہو؛

(ستائیس) ”نقصان دہ نامیہ“ سے کسی یا تمام کیڑے مکوڑوں، حشرات، کچھوا، پروٹوزوا، رخوہ، سنیل، یا دیگر ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں، پھپھوندی، بیکٹیریا، طفیلی پودے، وائرس یا ان کے تولیدی حصے یا کوئی بھی روگ دانی، گھاس، چوہے، یا کوئی بھی دیگر نباتاتی یا حیوانی نامیہ جو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی پودے یا جانوروں کی نوع کو ضرر یا بیماری پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، مراد ہیں؛

(اٹھائیس) ”خدرشہ“ سے حیاتیاتی، کیمیائی یا طبعی ایجنٹ مراد ہے بشمول حیات مماثل یا مصنوعی عمل سے تیار کردہ ہارمونز جو تحفظ خوراک، صحت حیوانات یا صحت نباتات پر منفی اثرات مرتب کرنے کی قوت رکھتا ہو، اس میں حیات مماثل یا مصنوعی عمل سے تیار کردہ ہارمونز شامل ہیں؛

(ا) بین الاقوامی معیارات، رہنما اصول اور سفارشات“ میں منجملہ دیگر اس حسب ذیل شامل ہیں:-

(الف) تحفظ خوراک کے لیے، معیارات، رہنما اصول اور سفارشات جو تغذیاتی مخلوط کمیشن (Codex Alimentarius Commission) نے قائم کیئے؛

(ب) صحت حیوانات اور حیوانی آزار۔ سے عالمی تنظیم برائے صحت حیوانات

(WOAH) کی حمایت کے تحت سفارش کردہ معیارات اور رہنما اصول؛

(ج) صحت نباتات کے لیے بین الاقوامی معیارات اور سفارشات جو بین الاقوامی

تحفظ نباتات کنونشن (IPPC) سیکرٹریٹ کے زیر اہتمام مقامی تنظیموں کے ساتھ جو کہ (IPPC) کے فریم ورک میں چلائی جا رہی ہیں کی معاونت کے ساتھ بنائے گئے ہیں؛

(د) نیسنگ لیبارٹریوں کے لیے۔ نیسنگ اور کیلیبریشن لیبارٹریوں کی مہارت کے

ISO معیارات ۱۷۰۲۵ میں وضع کیے گئے ہوں اور عمومی مقتضیات؛

(ه) وہ امور جو بالا احاطہ میں نہیں آئے، موزوں معیارات، رہنما اصول اور

سفارشات جو دیگر بین الاقوامی تنظیموں نے اختیار کر رکھی ہیں لاگو ہوں گی۔

(تیس) ”اجنبی حملہ آور انواع“ سے نباتات، حیوانات یا دیگر جاندار جو ماحول، معیشت، انسانی

صحت کے لیے نمایاں نقصان کے باعث ہوں، جہاں کہ وہ مقامی نہ ہوں؛

(اکیس) ”زیادہ سے زیادہ باقیات کی حد یا (MRL)“ سے زیادہ سے زیادہ باقیات کا

ارتکاز جسے قانوناً مجاز کیا گیا یا وہ جسے خوراک یا زرعی اجناس یا جانوروں کے چارے

میں یا پر قابل قبول تسلیم کیا گیا ہو، مراد ہے؛

(بیس) ”نامزد کردہ محکمہ“ سے صوبوں میں کوئی محکمہ یا کوئی بھی قانونی ہیئت جسے صوبائی حکومت

نامزد کرے، مراد ہے؛

(تینتیس) ”جانوروں کی قابل اعلان بیماری“ سے مراد، جانوروں کی قومی یا بین الاقوامی بیماریاں مراد

ہیں، جنہیں مخصوص وقت کے اندر جانوروں کی اتھارٹی کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے جب مالکان، جانوروں کے ڈاکٹرز یا لیبارٹریوں کو شک ہو؛

(چوتھیں) ”سرکاری کنٹرول“ SPS اقدامات کے اطلاق اور جرٹومیائی ایجنٹس، نقصان دہ نامیوں، کیڑے مکوڑوں، زرعی ادویات یا بیماریوں جیسا کہ قواعد کے تحت صراحت کی گئی ہے، کے لیے پروگرامز، عمل کاریوں، طریقہ ہائے کار یا میکنز جسے اس غرض کے لیے اتھارٹی بناتی ہے، مراد ہے؛

(پنہتیس) ”شخص“ سے قدرتی یا مصنوعی شخص مراد ہے اور اس میں کمپنی، فرم، اشخاص کی انجمن، اتھارٹی یا کوئی بھی ہیئت جسدیہ شامل ہے،

(چھتیس) ”کیڑے“ سے مراد، نباتات، حیوانات یا مرض زا ایجنٹ کی، کوئی بھی انواع، تناؤ یا بائیونائپ جو نباتات یا نباتات کی مصنوعات کے لیے، مواد یا ماحول کے لیے نقصان دہ ہو، اور اس میں طفیلی یا انسانوں اور جانوروں کی روگ مرض پھیلانے والے جراثیم اور جانور جو عوام الناس میں پریشانی صحت پیدا کرتے ہیں، شامل ہیں؛

(سینتیس) ”کیڑے مار ادویات“ سے کوئی بھی شے یا اشیا کا آمیزہ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ نقصان دہ جانداروں سے روک تھام، تلف کرنے، دور بھگانے، تخفیف کرنے یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو یا اس کے ذریعے کے طور پر پیش کیا گیا ہو، مراد ہے؛

(اڑتیس) ”مارکیٹ میں پیش کرنا“ سے فروخت کے لیے، پیشکش فروخت، بیچنے، حوالے کرنے یا مارکیٹ میں پیش کرنے کی کوئی بھی دیگر صورت اور پرچون یا تھوک کی تجارت کے لیے رکھنا یا نمائش کرنا مراد ہے؛

(اتناہیس) ”نباتات“ سے نباتات کی تمام انواع، فصلیں یا ان کے حصے، خواہ زندہ ہوں یا مردہ، مراد ہیں، اس میں تھن، شاخیں، ٹیوبر، بلب، کارنز، اسٹاکس، بڈوڈ، کنگ، لیرز، سلپس، سکرز، جڑیں، پانی کی کائی، پتے، پھول، پھل اور بیج شامل ہیں؛

(چالیس) ”داخلی پوائنٹ اور خارجی پوائنٹ“ سے بالترتیب کوئی بھی بندرگاہ، ہوائی اڈہ، خشک گودی یا زمینی راستے، جن کا وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہو، جو کسی بھی اشیا کی درآمد

یا برآمد کے لیے مقرر ہوں، مراد ہیں؛

(اکتالیس) ”مقررہ“ سے، جیسی بھی صورت ہو اس ایکٹ کے تحت مقرر کردہ قواعد و ضوابط مراد ہیں؛
(بیالیس) ”معیار“ سے مصنوعہ یا خدمات کی صراحت کردہ مقتضیات یا تفصیلات سے مطابقت، مراد ہے؛

(تینتالیس) ”قرنطینہ کی سہولت“ سے کوئی جگہ یا احاطہ جسے وفاقی حکومت نے فراہم یا منظور کیا ہو جس میں اشیاء جن کا مقصد درآمد یا برآمد ہو کو معائنے کے لیے علیحدگی میں رکھا جاسکے، مراد ہے؛

(چوالیس) ”حفظان صحت اور حفظان صحت نباتات (SPS) اقدام“ سے مراد، حسب ذیل پر قواعد کے ذریعے اقدامات کا اطلاق اور مقرر کرنا ہے؛

(الف) انسان زندگی۔ صحت اور ماحول کو مضر جانداروں سے پیدا ہونے والے خطرات سے جو حیوانات نباتات ساتھ لے جاتے ہیں یا اس سے بننے والی مصنوعات سے، یا نقصان دہ جانداروں کے داخلے، قیام یا پھیلاؤ سے تحفظ فراہم کرنا جس میں اجنبی حملہ آور انواع شامل ہیں؛

(ب) نقصان دہ جانداروں کے داخلے، قیام یا پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات سے حیوانات یا نباتات کی زندگی کو تحفظ فراہم کرنا؛

(ج) خوراک یا چارے سے انسانوں، حیوانات یا نباتات کی زندگی یا صحت کو جراثیم کشی، آلودگی، کیڑے مار ادویات کی باقیات اور جانوروں کی دی جانے والی ڈرگز، زہریلے مادوں یا بیماریاں پھیلانے والے جانداروں سے تحفظ فراہم کرنا؛

(د) نقصان پہنچانے والے جانداروں کے داخلے، قیام یا پھیلاؤ سے ہونے والے نقصان سے بچانا یا انہیں محدود کرنا جس میں کاروبار اور تجارت کے ذریعے دوسرے ملکوں سے آئی ہوئی انواع کی مصنوعات شامل ہیں جن پر اس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؛

(پہتا لیس) ”سائنسی کمیٹی“ سے دفعہ ۹ کے تحت قائم کردہ سائنسی کمیٹی مراد ہے؛
(چھپا لیس) ”سائنسی مشورہ“ اس ایکٹ کے تحت سائنسی کمیٹی کی جانب سے دیا جانا والا مشورہ مراد
ہے جو سائنسی شہادت اور علم کی بنیاد پر ہو؛

(سٹا لیس) ”غیر معیاری“ جب کیڑے مارا دوایات کے حوالے سے استعمال کیا جائے تو اس سے
کیڑے مار دوائی کی تاثیر یا خالص پن جو وہ بیان کردہ معیار یا کوالٹی سے کم تر ہو
جائے، جو کہ اس کے لیبل پر درج ہے یا جس کے تحت وہ فروخت کی جا رہی ہے یا ایک
کیڑے مار دوا جس کا کوئی قیمتی جزکلی یا جزوی طور پر اس سے نکال دیا گیا ہو، مراد ہے؛
(اڑتا لیس) ”W O A H“ سے ”قومی تنظیم برائے صحت حیوانات“

”Office International Epizooties (OIE)“ کے نام سے موسوم

تھی، جو کہ صحت حیوانات پر ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اور ایک عالمگیر اتھارٹی ہے؛

(انچاس) ”زون“ سے کسی علاقے کا ایک صراحت کردہ حصہ جس میں حیوانات کی ذیلی آبادی ہو
جس میں حیوانات کی مخصوص بیماری یا بیماریوں کی نسبت صحت کی حالت ہو، جس کے لیے
حیوانات کی بیماریوں کی روک تھام جن کی نگرانی، کنٹرول اور حیاتیاتی سیوریٹی اقدامات کا
اطلاق کیا گیا ہو تھے تاکہ حیوانات کی بیماری کا تدارک، کنٹرول یا خاتمہ اور بین الاقوامی
تجارت کی جاسکے۔

باب - دو

قیام و انصرام

۳۔ اتھارٹی کا قیام:- (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے پر ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی، جو کہ
قومی زرعی - تجارتی اور تحفظ خوراک اتھارٹی (NAFSA) کے نام سے موسوم ہوگی، تاکہ اس ایکٹ کی اغراض کو بحال
سکے۔

(۲) اتھارٹی حق جانشینی اور مہر عام کی حامل ایک ہیئت جسدیہ ہوگی اس اختیار کے ساتھ، کہ وہ معاہدات
میں شامل ہو سکتی ہے، منقولہ وغیر منقولہ ہر دو جائیداد حاصل کر سکتی ہے، قبضے میں رکھ سکتی ہے، تصفیہ کر سکتی ہے اس کے نام

سے مقدمہ کر سکتی ہے اور مقدمہ قائم کیا جاسکتا ہے۔

(۳) اتھارٹی کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہوگا اور وہ پاکستان میں ایسی دیگر جگہوں پر دفاتر قائم کر سکتی ہے جیسا کہ وہ ضروری متصور کرے۔

۴۔ گورنرز کا بورڈ:- (۱) عمومی نگرانی، پالیسی ہدایت کا جائزہ، اور تمام معاملات جو اتھارٹی کی پالیسی اور انصاف سے متعلق ہیں بورڈ کو تفویض ہوں گی بورڈ چیئر پرسن اور حسب ذیل ممبران پر مشتمل ہوگا اور ان کا تقرر وزیر اعظم کی جانب سے تین سال کی مدت کے لیے کیا جائے گا، یعنی کہ:

(الف) چھ اراکین جو پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر، اور گلگت بلتستان کے زرعی محکموں کے امور سے متعلقہ محکمے کے سیکرٹریز ہوں گے؛

(ب) قومی غذائی تحفظ اور تحقیق، ماحولیاتی تبدیلی، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور فنانس کے امور سے متعلقہ ڈویژن سے ایک نمائندہ جو ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے سے کم نہ ہو؛

(ج) دو خواتین اراکین جنہیں تحفظ خوراک، غذائی ٹیکنالوجی، صحت عامہ، علم زراعت، یا متعلقہ شعبے میں مہارت حاصل ہو؛

(د) تعلیمی یا تحقیقی تنظیموں سے دو اراکین؛ اور

(ہ) تین اراکین، ہر ایک میں سے ایک،۔

(ایک) نباتات سے متعلق تجارتی ایسوسی ایشنز؛

(دو) حیوانات سے متعلق تجارتی ایسوسی ایشنز؛ اور

(تین) فیڈریشن آف پاکستان ایوان تجارت و صنعت (FPCCI)۔

(۲) چیئر پرسن اپنی ایمانداری اور قابلیت کے حوالے سے مشہور شخص ہوگا جو کسی بھی متعلقہ شعبے میں بشمول

تحفظ خوراک، غذائی ٹیکنالوجی، صحت عامہ، علم زراعت، جانوروں کی صحت، تجارت و اقتصادیات یا متعلقہ شعبے میں کم از کم بارہ سال کا تجربہ رکھتا ہو۔

(۳) اتھارٹی کا ڈائریکٹر جنرل بورڈ کے بر بنائے عہدہ رکن کے طور پر کام کرے گا، جسے ووٹ کا حق

حاصل نہیں ہوگا، اور بورڈ کے سیکرٹری کے طور پر کام کرے گا۔

(۴) اراکین، بر بنائے عہدہ رکن کے علاوہ، کا تقرر ایسی قیود و شرائط پر کیا جائے گا جیسا کہ وزیر اعظم تعین

کرے۔ کسی شخص دو مسلسل مدت سے زائد کے لیے بطور رکن تقرر نہیں کیا جائے گا۔

(۵) چیئر پرسن یا کوئی رکن، بر بنائے عہدہ اراکین کے علاوہ، وزیر اعظم کو تحریراً مخاطب کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے سکے گا۔

(۶) وزیر اعظم چیئر پرسن یا کسی بھی رکن کو عہدے سے بر طرف کر سکے گا اگر وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں عدم دلچسپی، عدم کارکردگی کی وجہ سے یا قانونی عدالت کی جانب سے سزایابی پر نا اہل پایا گیا ہو۔

(۷) چیئر پرسن، یا کوئی بھی رکن، بر بنائے عہدہ رکن کے علاوہ، اگر وہ بورڈ کو پیشگی اطلاع دیئے بغیر بورڈ کے تین مسلسل اجلاسوں سے غیر حاضر رہے تو اس کا عہدہ چھوڑنا متصور کیا جائے گا۔

۵۔ اتھارٹی کے کارہائے منصبی اور اختیارات:- (۱) اتھارٹی اپنے کارہائے منصبی انجام دے گی، یعنی:-

(ایک) بین الاقوامی معیارات، رہنما اصولوں اور سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کی درآمد، برآمد اور بین علاقائی تجارت کے سلسلے میں ایس پی ایس اقدامات کو فروغ دینا، اس کا اطلاق کرنا اور اس کی تعمیل کو یقینی بنانا؛

(دو) مال کی درآمد، برآمد اور بین علاقائی تجارت کے سلسلے میں ایس پی ایس اقدامات سے متعلق وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے سے کیے گئے تمام اقدامات کو اپنانا اور اس کا بندوبست کرنا؛

(تین) کسی بھی کاروباری آپریٹور جسٹر کرنا، اگر ایسے طریقہ کار میں جیسا کہ مقرر ہو کسی بھی دیگر اتھارٹی یا حکومتی ہیئت کے ساتھ پہلے سے رجسٹر نہ کیا گیا ہو؛

(چار) باضابطہ کنٹرول کے نظام کے ذریعے کاروباری آپریٹرز کی جانب سے ایس پی ایس معیارات کی تعمیل کو یقینی بنانا جسے وہ برآمد کے لیے بنائے گئے مال کی تیاری کے کسی بھی مرحلے پر انجام دے سکے گی؛

(پانچ) کاروباری آپریٹرز کی جانب سے مال کے ٹریک اور ٹریس یا مارکنگ اور گریڈ کی علامتی مقتضیات کے ساتھ تعمیل کو یقینی بنانا؛

(چھ) ایسے طریقہ کار میں فارمولیشن پلانٹس کو رجسٹر کرنا اور منضبط کرنا جیسا کہ مقررہ ہو؛

(سات) مال کی درآمد اور برآمد کے سلسلے میں داخلی راستوں اور خارجی راستوں پر معائنہ اور قرنطینہ کنٹرول کو نافذ کرنا؛

(آٹھ) ذیلی کمیٹیاں تشکیل دینا جیسا کہ اس ایکٹ کی اغراض کی بجا آوری کے لیے درکار ہوں؛
(نو) مقررہ طریقہ کار کے مطابق، کسی بھی دیگر مال یا انسانوں کو نقصان دہ نامیہ، ناگوار انواع، یا بیماریاں متعارف کروانے والے مال کی درآمد یا برآمد کو منضبط کرنا، ممنوع اور محدود کرنا؛

(دس) اس ایکٹ کے تحت سرٹیفکیٹس یا لائسنسوں کا تقاضا کرنے والی سرگرمیوں کے لیے رجسٹریشن یا دیگر سرٹیفکیٹس اور لائسنسز جاری کرنا اور منسوخ کرنا؛
(گیارہ) ایس پی ایس کی تعمیل، تحفظ خوراک اور کوالٹی معیارات سے متعلق کاروباری آپریٹرز کی نگرانی اور مانیٹرنگ کرنا؛

(بارہ) اس ایکٹ کے تحت پاکستان سے برآمد کے لیے نیز متعلقہ اغراض کے لیے مطلوبہ مال کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ کاری، اور مارکیٹنگ کے لیے ایس پی ایس اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا؛

(تیرہ) متعلقہ صوبائی اتھارٹیز کی ہم آہنگی کے ساتھ ایس پی ایس اقدامات کے اطلاق سے متعلق خطرات پر قابو پانے کے لیے قومی بحران کے انصرام کے لیے منصوبے تیار کرنا اور نافذ کرنا ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ مقررہ ہوں؛

(چودہ) منظور شدہ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کو نامزد، مشتہر یا قائم کرنا؛
(پندرہ) بین الاقوامی بیٹوں، کنونشن، ایسوسی ایشنز یا تنظیموں کو تمام لازمی یا رضا کارانہ دستاویزات یا رپورٹنگ پیش کرنا؛

(سولہ) برآمدی تصدیق کی اغراض کے لیے زونز اور کمپارٹمنٹس پر لاگو بائیوسکیورٹی اقدامات کا انصرام اور انتظام کرنا؛

(سترہ) حیوانات کی بیماریوں کے امراض یا مال کی برآمد کے بین الاقوامی اعلانات کی اغراض کے لیے باضابطہ بیطارانہ تشخیصی ٹیسٹ کرنا اور تجزیہ کرنا، ٹیسٹ کے نتائج اور بین الاقوامی

بیطارانہ سرٹیفکیٹس کا اجرا کرنا؛

(اٹھارہ) حیوانات و نباتات کی مصنوعات کی بین الاقوامی تجارت سے متعلقہ دوطرفہ علاقائی اور بین الاقوامی فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کرنا؛

(انیس) مال بشمول حیوانات اور حیوانات کی مصنوعات کی برآمد اور درآمد کے لیے بین الاقوامی ہم آہنگی پیدا کرنا اور منڈی تک رسائی کے لیے مذاکرات کرنا؛

(بیس) خطرے سے دوچار علاقوں کا تحفظ کرنا اور کیڑوں سے پاک علاقوں اور کیڑوں کے کم پھیلاؤ والے علاقوں کو معین کرنا، دیکھ بھال کرنا اور نگرانی کرنا۔

(۲) اپنے کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ ذیلی

دفعہ (۱) میں بیان کیے گئے ہیں، اتھارٹی،۔۔

(ایک) اس ایکٹ کے تحت اور دیگر اتھارٹیز، بین الاقوامی ایجنسیوں یا تنظیموں کے ساتھ مل کر کسی بھی معاملے سے متعلق کسی بھی علمی سرگرمی یا پروجیکٹ میں شرکت کر سکے گی؛

(دو) اپنے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے ایسے چارجز اور فیسیں ایسے طریقہ کار میں جیسا کہ مقررہ ہوں عائد کر سکے گی؛

(تین) کارہائے منصبی کے لیے موزوں سروس سٹیکر کا تعین کر سکے گی اور ایسے افسران اور ملازمین، مشیران، کنسلٹنٹس، ماہرین یا سائنسدانوں کا تقرر کر سکے گی جیسا کہ ایسی مقررہ قیود و شرائط پر لازماً درکار ہوں؛

(چار) وفاقی حکومت کو پیش کرنے کے لیے سالانہ بجٹ کے تخمینے کی منظوری دے سکے گی؛

(پانچ) اس میں دی گئی جائیداد، آمدنی، گرانٹس، چندے وصول کر سکے گی اور ان کا انتظام کر سکے گی، قرضہ اکٹھا کر سکے گی اور قابل اطلاق قوانین کی مطابقت میں مذکورہ جائیداد، گرانٹس، ہبہ بالوصیت، ٹرسٹس، تحائف، عطیات، اوقاف یا چندوں کا احاطہ کرنے والے کسی بھی فنڈ کی سرمایہ کاری کر سکے گی؛

(چھ) تربیتی پروگراموں، قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں، پالیسی سیمینارز، مجلس مذاکرہ، یا آگاہی ورکشاپس یا ایس پی ایس اقدامات کو فروغ دینے کے لیے ضروری سمجھی جانے

والی کوئی بھی دیگر سرگرمی کا انعقاد کر سکے گی؛

(سات) بین الاقوامی تجارت میں ایس پی ایس اقدامات کے اطلاق کے لیے ڈیٹا کے مطالعہ،

سرورے، تجربات اور تجزیہ کر سکے گی؛

(آٹھ) اس ایکٹ کے تحت زیر انتظام مال کے لیے منڈی تک رسائی کو محفوظ بنانے اور برقرار

رکھنے کے لیے کام کر سکے گی، اور ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں کے اندر، ان کی غیر محدود اور مسلسل

نقل و حرکت کو یقینی بنا سکے گی۔ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن منظور کر سکے گی اور سسٹم سے تیار کردہ

سرٹیفکیٹ کے لیے، جیسی بھی صورت ہو، ضمانت دے سکے گی؛

(نو) تاوان یا جرمانے عائد کر سکے گی؛ اور

(دس) کوئی بھی دیگر کارمنہی انجام دے سکے گی اور معاملات اور چیزوں سے نمٹ سکے گی جو اس

ایکٹ کے تحت اس کے کارہائے منصبی کی تکمیل کرنے کے لیے ضروری یا اس کے ذیلی

ہوں یا وفاقی حکومت کی جانب سے، وقتاً فوقتاً اسے تفویض کیے گئے ہوں۔

(۳) اتھارٹی اپنے کوئی بھی کارہائے منصبی کسی شخص، اتھارٹی، ایجنسی یا کمپنی کو معاہداتی انتظام کے ذریعے

ذریعے، ایسی قیود و شرائط پر جس میں باہمی طور پر متفق ہوں سپرد یا آؤٹ سورس کر سکے گی۔

۶۔ تفویض کرنا:- اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت اپنے کوئی سے بھی اختیارات اور کارہائے منصبی

ڈائریکٹر جنرل یا کسی بھی مجاز افسر کو، اس ایکٹ کے تحت، دفعہ ۳۲ کے سوا، ایسی شرائط کے تابع جیسا کہ مقررہ ہوں

تفویض کر سکے گی۔

۷۔ بورڈ کے اجلاس:- (۱) بورڈ سہ ماہی یا جتنی مرتبہ اپنے کارہائے منصبی کو انجام دینے کے لیے

مناسب ہو یا وفاقی حکومت کے مخصوص مشورے پر اجلاس کرے گی۔

(۲) چیئر پرسن، اور اس کی غیر موجودگی میں، اجلاس میں موجود اراکین کی جانب سے منتخب کردہ کوئی بھی

دیگر رکن، اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کر سکے گا۔

(۳) بورڈ کے اجلاس کا کورم کل رکنیت کی سادہ اکثریت ہوگی، اس میں چیئر پرسن اور وزارت قومی

غذائی تحفظ اور تحقیق سے ایک نمائندہ شامل ہوگا۔

(۴) اتھارٹی کا اجلاس ایسے طریقہ کار میں منعقد کیا جائے گا جیسا کہ مقررہ ہو، اور جب تک کہ اس طرح سے مذکور نہ ہو، جیسا کہ اتھارٹی کی جانب سے تعین کیا جاسکتا ہے۔

(۵) بورڈ یا اس کی کمیٹیوں کا کوئی فعل یا کارروائی محض کسی خالی آسامی یا اس کی تشکیل میں نقص کی وجہ سے باطل نہیں سمجھی جائے گی۔

۸۔ ڈائریکٹر جنرل:- (۱) وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلامیے کے ذریعے، ڈائریکٹر جنرل کے طور پر کسی شخص کا تقرر ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ قواعد کی رو سے مقررہ ہوں، تین سال کی مدت کے لیے کر سکے گی۔

(۲) ڈائریکٹر جنرل اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو افسر ہوگا اور اتھارٹی کے امور کے روزمرہ کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہوگا اور ایسے کارہائے منصبی اور اختیارات استعمال کرے گا جیسا کہ مقررہ ہوں یا اتھارٹی کی جانب سے اسے تفویض کیے گئے ہوں۔

۹۔ سائنسی کمیٹی:- (۱) اتھارٹی کی ایک سائنسی کمیٹی ہوگی جو بورڈ یا ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے بھیجے گئے معاملات پر سائنسی یا تکنیکی مشورہ دینے کی ذمہ دار ہوگی۔

(۲) بورڈ سائنسی کمیٹی کے لیے عملی راہنما اصول بنائے گا۔

(۳) سائنسی کمیٹی سرکاری اور نجی شعبے سے کم از کم پندرہ (۱۵) نامور سائنسدانوں پر مشتمل ہوگی جنہیں اتھارٹی کی جانب سے تین سال کی مدت کے لیے ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ مقررہ ہوں تقرر کیا جائے گا۔

(۴) اتھارٹی اپنے اراکین میں سے سائنسی کمیٹی کے کنویئر کا تقرر کرے گی۔

(۵) اگر کوئی ایسا موضوع جس کے لیے سائنسی کمیٹی سے مشورے کی ضرورت ہو ان اراکین کی مہارت سے باہر ہو تو، سائنسی کمیٹی، بورڈ یا ڈائریکٹر جنرل کو سفارش کر سکے گی کہ معاملہ اس ایکٹ کے تحت قائم کردہ کسی بھی دیگر کمیٹی کو بھیجا جائے۔

(۶) بورڈ یا ڈائریکٹر جنرل، جیسی بھی صورت ہو، سائنسی مشورے کو مد نظر رکھے گا، جو صرف بورڈ کی جانب سے خاص طور پر بھیجے گئے مسائل کے حوالے سے پابند ہوگا۔

(۷) سائنسی کمیٹی، اپنے طور پر، بورڈ یا ڈائریکٹر جنرل کو تکنیکی یا سائنسی مشورہ فراہم کر سکے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ مذکورہ مشورہ بورڈ یا ڈائریکٹر جنرل پر لازم نہیں ہوگا۔

۱۰۔ مشاورتی کمیٹیاں:- (۱) بورڈ اتنی مشاورتی کمیٹیاں قائم کرے گا جیسا کہ مختلف پیشوں اور شعبوں کے لیے مناسب سمجھے اور موجودہ ایس پی ایس اقدامات کی بہتری، کیڑے مارا دویات اور دیگر کیمیکلز کی زیادہ سے زیادہ بقیہ حدود (ایم آر ایلز) کی نگرانی، ذخیرہ کرنے اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانے، فارم کے طریقوں میں بہتری، نقل و حمل، مال کی بین علاقائی تجارت، تربیت اور کوئی بھی دیگر کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہوں گی جیسا کہ اتھارٹی کی جانب سے ہدایت دی گئی ہو۔

(۲) بورڈ مشاورتی کمیٹیوں کے لیے عملی راہنما اصول بنائے گا۔

(۳) مشاورتی کمیٹی وقائی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں، متعلقہ شعبے کے ماہرین اور سرکاری اور نجی

شعبے سے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل ہوگی۔

(۴) بورڈ اپنے اراکین میں سے مشاورتی کمیٹی کے کنویں کا تقرر کرے گا۔

۱۱۔ معاوضہ اور اخراجات:- (۱) اتھارٹی ڈائریکٹر جنرل اور اس کے ملازمین کو ایسا معاوضہ

ادا کرے گی جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۲) اتھارٹی ایسے اجلاس کی فیسیں، اخراجات یا معاوضہ، جیسی بھی صورت ہو، جیسا کہ مقررہ ہو، اس

ایکٹ کے تحت تشکیل شدہ بورڈ کے چیئر پرسن، بورڈ کے اراکین اور کمیٹیوں کو ادا کرے گی۔

باب - تین

تحفظ خوراک اور ایس پی ایس اقدامات

۱۲۔ ایس پی ایس اقدامات کی تعمیل کرنے کی بابت اقتضا:- درآمد یا برآمد کے لیے مطلوبہ

مال اس ایکٹ کے تحت ایس پی ایس اقدامات کی تعمیل کرے گا جیسا کہ مقررہ ہوں۔

۱۳۔ بین علاقائی تجارت:- (۱) صوبوں کے مابین مال کی بین علاقائی تجارت ایس پی ایس

اور تحفظ خوراک کے معیارات کی تعمیل میں جائے گی۔

(۲) اتھارٹی صوبوں کو ایس پی ایس اقدامات اور تحفظ خوراک کے معیارات کو یکساں طور پر اپنانے کے

لیے مشورہ دے گی۔

(۳) اتھارٹی صوبوں کو خوراک، فیڈ، یا جانوروں کی علاقائی نقل و حرکت سے منسلک خطرات کے بارے میں مطلع کرے گی، جیسا کہ مقررہ ہو۔

(۴) صوبوں کے مابین ایس پی ایس کے اقدامات یا تحفظ خوراک کے معیارات کی تعمیل، یا انسان، نباتات، یا حیوانات کی صحت سے وابستہ خطرات سے متعلق پیدا ہونے والے کسی بھی تنازعہ کا تصفیہ کرنے کے لیے، مشاورتی کمیٹی کو اور اگر درکار ہو تو، ملکنیکی مشورے کے لیے سائنسی کمیٹی کو بھیجا جائے گا۔

۱۴۔ زرعی مصنوعات، خوراک، اور فیڈ کی درآمد و برآمد:- (۱) اس ایکٹ میں شامل کسی بھی احکامات کے باوصف، اتھارٹی کو ایس پی ایس سرٹیفیکیشن تسلیم کرنے، جانچنے، اور مستہر کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اتھارٹی، سائنسی مشورے کی بنیاد پر، کسی بھی ملک پر خصوصی شرائط عائد کر سکے گی جس کے ایس پی ایس اقدامات پاکستان کے اندر پودے، جانور، انسانی صحت کے تحفظ کے لیے غیر تسلی بخش سمجھے جائیں۔

(۲) پاکستان میں کوئی مال درآمد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ برآمد کنندہ ملک کی متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفیکیشن کے ہمراہ، ذیلی دفعہ (۱) کے تحت مستہر کردہ ایس پی ایس شرائط کی تعمیل کی تصدیق نہ کرتا ہو۔

(۳) پاکستان کے علاقے سے گزرنے والا تمام مال جو دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے ہو قابل اطلاق ایس پی ایس شرائط کے تابع ہوگا۔

(۴) ممنوعہ کیڑے مارا دوا یاات، جینیاتی طور پر تبدیل شدہ حیاتیات (جی ایم اوز) جو پاکستان کی قومی بائیوسیفٹی کمیٹی (این بی سی) کی جانب سے منضبط نہ کیے گئے ہوں اور بغیر لائسنس شدہ خوراک یا بیج ہوں تو منتقلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۱۵۔ مجاز افسران کی تقرری:- (۱) اتھارٹی اتنے افسران کو مجاز افسران کے طور پر تقرر کر سکے گی

جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت اپنے کارہائے منصبی انجام دینے کے لیے ضروری ہو۔

(۲) اس ایکٹ کے احکامات اور اس کے تحت وضع کردہ ضوابط کے تابع، اتھارٹی مجاز افسران کے اختیارات، جیسا کہ مقررہ ہوں، اتھارٹی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے قائم کردہ کسی بھی دیگر آئینی ہیئت کے کسی بھی افسران کو، عطا کر سکے گی۔

۱۶۔ مجاز افسران کے اختیارات:- (۱) اس ایکٹ کے احکامات کے تابع، مجاز افسر۔

(الف) کسی بھی مناسب وقت پر یا جب کسی بھی ادارے میں کام جاری ہو جس کے بارے میں یہ باور کیا جائے کہ مال برآمد کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے، عمل کاری کی جاتی ہے یا پیک کیا جاتا ہے تو اس ادارے میں سرکاری اختیارات کی بجا آوری کی اغراض سے داخل ہو سکے گا تاکہ ایس پی ایس اقدامات، جانور کی صحت یا تحفظ خوراک کی تعمیل کرنے کا تعین کیا جاسکے؛

(ب) کسی بھی ادارے میں مال کا معائنہ یا جانچ کر سکے گا جس پر اس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہو، یا جو برآمدی اغراض کے لیے مال کی تیاری کی بابت استعمال یا قابل استعمال ہو اور اس کے نمونے لیبارٹری تجزیے کے لیے لے سکے گا؛

(ج) کسی بھی شخص، سامان، گاڑی، بحری جہاز، ریلوے ویگن، یا ہوائی جہاز کو اس ایکٹ کے تابع مال لے جانے والے داخلی اور خارجی کسی بھی راستے پر روک سکے گا اور تلاش لے سکے گا، مذکورہ مال کی جانچ کر سکے گا اور اس کے نمونے لے سکے گا؛

(د) کسی بھی احاطے، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، ویگن، گاڑی بحری جہاز یا کسی بھی قسم کی گاڑی جو جانوروں یا جانوروں کی مصنوعات کو لے جانے کے لیے استعمال ہوئی ہو کو جراثیم سے پاک کرنے کا حکم دے سکے گا؛

(ه) مقررہ معیار کی تفصیل اور نشان کی تعمیل کے لیے سامان کا معائنہ کر سکے گا؛

(و) کسی بھی کتاب، دستاویزات یا کسی بھی ذریعے سے دیگر ریکارڈ طلب کر سکے گا جس کا وہ یقین رکھتا ہو کہ اس ایکٹ کے احکامات کے نفاذ سے متعلق سامان کے حوالے سے کوئی بھی معلومات یا ڈیٹا موجود ہے اُن کی نقول حاصل کر سکے گا اور اس سے اقتباسات لے سکے گا۔

(ز) ایسے وقت کے لیے، جیسا کہ ضروری ہوں، کسی بھی ذرائع سے کسی بھی شے کو قبضہ میں لے سکے گا یا ضبط کر سکے گا، یا جس سے متعلق وہ یہ رائے رکھتا ہو کہ اس ایکٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور قبضہ یا ضبطی کے وقت پر، کاروباری فرد یا شخص کو، جس سے قبضہ

- یا ضبطی مذکورہ کارروائی کے نتیجے میں کی گئیں ہے، تحریری اطلاع دے سکے گا؛
- (ح) ایسے جانوروں کی برآمد پر پابندی لگا سکے جو SPS معیار یا دیگر برآمدی مقررہ شرائط کی تعمیل پر پورا نہیں اترتے؛
- (ط) کسی بھی جانور یا جانوروں کی مصنوعات کو، جس کی درآمد وفاقی حکومت کی طرف سے ممنوع ہو، کو درآمد کرنے والے شخص کے خرچ پر، واپس بھیج سکے گا؛
- (ی) اشیا کو ایسی مدت کے لیے جیسا کہ مقرر کیا گیا ہو قرنطینہ مرکز منتقل کر سکے گا؛
- (ک) اس امر کو یقینی بنا سکے گا کہ قرنطینہ مرکز میں مقرر کردہ شرائط پر عمل کیا گیا ہے؛
- (ل) کاروباری فرد یا درآمد یا برآمد کنندہ، جیسی بھی صورت ہو، کو اشیا کے مقررہ ٹیسٹ، عمل یا طریقہ کار کو انجام دینے اور اگر مذکورہ ٹیسٹ کسی نقصان دہ جراثیم یا بیماری کی موجودگی کی تصدیق کریں تو اس کو تلف کرنے کا حکم دے سکے گا؛
- (م) کیڑوں، ظروف، کنٹینرز یا کوڑا جو بیماری سے متاثرہ جانور یا جانوروں کی مصنوعات کے ساتھ ہو یا ان سے منسلک ہو کو تلف کرنے کا حکم دے سکے گا؛
- (ن) اشیا کی تیاری کرنے والے پلانٹس کا معائنہ کر سکے گا تاکہ ان کی رجسٹریشن کے لیے ان کی فٹنس اور اس ایکٹ کے احکامات پر عمل کرنے کا تعین کیا جاسکے؛
- (س) پولیس افسر یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے افسر سے طاقت کے استعمال کے لیے مدد طلب کر سکے گا، جو کہ اس ایکٹ کے تحت اُس کے کارہائے منصبی کی ادائیگی کے لیے مناسب طور پر ضروری ہوں؛ اور
- (ع) اتھارٹی کی جانب سے تفویض کردہ کوئی بھی دیگر کارہائے منصبی استعمال کر سکے گا۔

۱۷۔ شفافیت :- (۱) اتھارٹی ایکٹ کے تحت SPS اقدامات کی تیاری، تشخیص اور نگرانی کے دوران،

- بین الاقوامی معیارات اور مارکیٹ تک رسائی کے لیے مشاورت اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کر سکے گی۔
- (۲) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون سے متناقض ہوئے بغیر، جہاں یہ شبہ کرنے کی معقول وجوہات ہوں کہ اشیا میں انسانی صحت، جانور کی صحت اور پودوں کی صحت کے لیے خطرہ موجود ہو سکتا ہے تو، پھر اس خطرہ کی نوعیت، سنجیدگی اور وسعت پر انحصار کرتے ہوئے، اتھارٹی کاروباری لین دین کرنے والوں کو اطلاع دینے کے

لیے، اگر ضروری ہو تو، عوام الناس کو، انسانی صحت، حیوانات کی صحت، نباتاتی صحت کے بارے میں اشیاء میں مکمل طور پر ممکنہ حد تک خطرے کی نوعیت کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے تدارک، تخفیف یا اس خطرہ کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔

(۳) کسی دیگر قانون کے ساتھ متناقض ہوئے بغیر، اتھارٹی اس ایکٹ کے تحت فنڈز، اختیار، یا حاکمیت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے داخلی جوابدہی کے طریقہ کار کی صراحت کرے گی۔

باب چار

اختیار سماعت، جرائم اور جرمانے

۱۸۔ دفعہ ۲۰ کے تحت جرم میں مدد یا اعانت کرنا اور ارتکاب جرم کرنا۔ (۱) کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح سے دفعہ ۲۰ کے تحت کسی جرم کے ارتکاب کی کوشش کرتا ہے یا اس میں مدد یا اعانت کرتا ہے تو وہ ایسی سزا کا مستوجب ہوگا جو اسی جرم کے لیے فراہم کی گئی ہے۔

۱۹۔ کمپنیوں وغیرہ کی جانب سے جرائم۔ جہاں دفعہ ۲۰ کے تحت قابل سزا جرم کسی کمپنی کی جانب سے کیا گیا ہو تو، کوئی بھی شخص جو ارتکاب جرم کے وقت کمپنی کا انچارج ہو اور کمپنی کے کاروباری لین دین کا ذمہ دار ہو، اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے کسی ڈائریکٹر یا شراکت دار کو اس جرم کا قصور وار متصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور محاسبہ سزا دی جائے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ اس دفعہ میں شامل کوئی بھی امر مذکورہ شخص کو ایکٹ ہذا میں فراہم کردہ کسی بھی سزا کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا بشرطیکہ وہ یہ ثابت کر دے کہ اس جرم کا ارتکاب اس کے علم کے بغیر کیا گیا تھا یا اس نے اس جرم کے ارتکاب کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔

۲۰۔ جرائم۔ اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی شخص کسی جرم کا قصور وار ہوگا، اگر وہ حسب ذیل میں سے کسی کو انجام دیتا ہے۔

(ایک) وہ کسی ملک یا علاقے سے کسی بھی جانور یا جانوروں کی مصنوعات کو درآمد کرتا ہے یا اس کا

موجب بنتا ہے جہاں سے کسی مخصوص بیماری کی موجودگی یا اس کی موجودگی کے شبے، یا اس کی منتقلی کے خطرے کی وجہ سے وہاں سے اس طرح کی درآمد پر پابندی یا ممانعت ہو؛

(دو) برآمدی ملک کی مجاز اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ درست تندرستی سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی جانور کو درآمد یا برآمد کرتا ہے، یا جعلی، دھوکہ دہی پر مبنی، یا فراڈ سرٹیفکیٹ استعمال کرتا ہے؛

(تین) ملاوٹ شدہ کیڑے مار ادویات درآمد کرتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے، مرتب کرتا ہے، فروخت کرتا ہے، فروخت کرنے کے لیے ذخیرے میں رکھتا ہے یا ان کی فروخت کے لیے اشتہار دیتا ہے؛

(چار) ادویہ سازی (فارمولیشن) پلانٹ کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے؛

(پانچ) کسی بھی مقام یا احاطے میں جو اس مخصوص برآمد کے لیے منظور یا رجسٹرڈ نہ ہو اس سے جانور یا جانوروں مصنوعات کی فراہمی کرتا ہے؛

(چھ) اس ایکٹ یا اس کے تابع وضع کردہ ضوابط کے تحت حکم کردہ جانوروں کو قرنطینہ کرنے سے انکار کرتا ہے؛

(سات) جانوروں، جانوروں کی مصنوعات کو قرنطینہ سہولت سے ہٹاتا ہے یا کسی اور غیر منظور شدہ جگہ پر ان کو منتقل کرتا ہے؛

(آٹھ) غیر معیاری کیڑے مار ادویات یا زرعی جراثیم کش ادویات کو ذخیرہ کرتا ہے یا عمل کاری کرتا ہے؛

(نو) درآمدی ملک کی ملکی ضروریات کا جائزہ لینے بغیر جانوروں اور جانوروں کی مصنوعات کو برآمد کرتا ہے؛

(دس) اشیاء کی مقدار، معیار یا سامان کی قسم کے حوالے سے جعلی یا دھوکہ دہی پر مبنی لیب رپورٹس، ارسال سے قبل معائنہ رپورٹ، تیار سازی رپورٹ پیش کرتا ہے؛

(گیارہ) قرنطینہ سہولت میں رکھے گئے درآمدی پودوں، نباتاتی مواد یا جانوروں کو لاحق کسی بیماری، زیر کے بارے میں اطلاع دینے میں ناکام رہتا ہے۔

(بارہ) قرنطینہ سہولت میں درآمد شدہ سامان کے بارے میں مجاز افسر کو مطلوبہ رپورٹ، ڈیٹا یا کوئی

بھی دیگر دستاویزات جمع کروانے میں ناکام ہو جائے؛

(تیرہ) غیر رجسٹرڈ قرنطینہ سہولت میں پودے لگاتا ہے اور پلانٹ ساز و سامان کی تنصیب کرتا ہے؛

(چودہ) ممنوعہ کیڑے مار زرعی ادویات درآمد کرتا ہے یا انکو ذخیرہ کرتا ہے؛

(پندرہ) مناسب احتیاط کے بغیر خطرناک کیڑے مار ادویات کی درآمد کرتا ہے اور انکو ذخیرہ کرتا ہے؛

(سولہ) SPS اقدامات کی ادائیگی یا خصوصی شرائط کی تعمیل کرنے سے انکار کرتا ہے؛

(سترہ) اس ایکٹ کے تحت مجاز افسر کو کارہائے منصبی کی ادائیگی سے عملاً روکتا ہے یا اس میں

رکاوٹ یا مزاحمت کرتا ہے؛

(اٹھارہ) ملاوٹ شدہ کیڑے مار ادویات یا جراثیم کش زرعی ادویات کو ذخیرہ ان کی عمل کاری

کرتا ہے؛

(انیس) اس ایکٹ کے تحت مجاز افسر کی معاونت کرنے والے کسی پولیس افسر یا قانون نافذ کرنے

والے ادارے کے کسی افسر کے کارہائے منصبی کی ادائیگی میں عملاً روکاوٹ ڈالتا ہے، اس

کو روکتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے؛

(بیس) ملاوٹ شدہ یا ممنوعہ کیڑے مار ادویات کو درآمد کرتا ہے، تیار کرتا ہے، مرتب کرتا ہے،

فروخت کرتا ہے، فروخت کرنے کی پیشکش کرتا ہے، فروخت کے لیے ذخیرے میں رکھتا

ہے یا اشتہار برائے فروخت دیتا ہے؛

(اکیس) مارکیٹ میں غیر رجسٹرڈ، جعلی ملاوٹ شدہ زائد المعیار زرعی جراثیم کش ادویات یا کیڑے

مار ادویات فروخت کرتا ہے یا فروخت کرنے کی پیشکش کرتا ہے، ان کو ذخیرہ کرتا ہے؛

(باہیس) ضروری دستاویزات کے بغیر درآمدی یا برآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا غیر مصدقہ اشیا

برآمد کرتا ہے؛

(تیس) درآمدی ملک کی خصوصی شرائط کی تعمیل کرنے سے انکار کرتا ہے؛

(چوبیس) قرنطینہ سہولت اور رجسٹریشن کے بغیر کسی بھی جانور کو درآمد کرتا ہے؛

(پچیس) زرعی جراثیم کش ادویات اور کیڑے مار ادویات کو نامکمل لیبل کے ساتھ اور کیڑے مار

ادویات کے ظروف، بیگز یا اس طرح کی دیگر اشیا کو مہر کے بغیر فروخت کرتا ہے یا فروخت

۳۴

کرنے کی پیشکش کرتا ہے؛

(چھبیس) اس ایکٹ یا ضوابط کے تحت کارہائے منہجی انجام دینے والے مجاز افسر سے عملاً کسی امر کو چھپاتا ہے، اسکو جھوٹا یا گمراہ کن بیان دیتا ہے؛ اور (ستائیس) مقررہ رجسٹر، مقام، سنٹور یا لیب وغیرہ کے معائنے سے انکار کرتا ہے۔

۲۱۔ جرمانے:- جو کوئی بھی شخص دفعہ ۲۰ کی کسی شق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ، شقوں کی خلاف ورزی کی صورت میں حسب ذیل سزاؤں کا مستوجب ہوگا۔۔

(اول) شقات (ایک)، (دو)، (تین) یا چہارم کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ تین سال تک سزائے قید، یا تین لاکھ روپے تک جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا اور جہاں مجاز افسر کی جانب سے مبینہ شخص کو فی الفور جرم کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو، عدالت اس پر مزید جرمانے عائد کر سکے گی جو جرم کی جاری رہنے کی مدت میں ہر روز کے لیے پچاس ہزار روپے تک ہوگا۔

(دوم) شقات (پانچ) (چھ)، (سات) اور (آٹھ) کی خلاف ورزی کی صورت میں دو سال تک سزائے قید، یا بیس لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا اور جہاں مبینہ شخص کو مجاز افسر کی جانب سے فی الفور جرم کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو، عدالت اس پر مزید جرمانہ عائد کر سکے گی جو جرم کے جاری رہنے کی مدت میں ہر روز کے لیے پچیس ہزار روپے تک ہوگا؛

(سوم) شقات (نو)، (دس)، (گیارہ)، (بارہ)، (تیرہ)، (چودہ)، (پندرہ)، (سولہ)، (سترہ)، (اٹھارہ)، (انیس)، (بیس) یا (اکیس) کی خلاف ورزی کی صورت میں وہ ایک سال تک سزائے قید، یا دس لاکھ روپے تک جرمانے یا دونوں سزاؤں کا مستوجب ہوگا اور جہاں مبینہ شخص کو مجاز افسر کی جانب سے فی الفور جرم کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو، عدالت اس پر مزید جرمانہ عائد کر سکے گی، جو جرم کے جاری رہنے کی مدت میں ہر روز کے لیے دس ہزار روپے تک ہوگا؛ اور

(چار) شقات (بارہ)، (تیرہ)، (چودہ)، (پندرہ)، (سولہ)، یا (سترہ) کی خلاف

ورزی کی صورت میں وہ پانچ لاکھ روپے تک جرمانے کی ادائیگی کرنے کا مستوجب ہوگا اور جہاں مبینہ شخص کو مجاز افسر کی جانب سے جرم کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو، عدالت جرم کی جاری مدت میں ہر روز کے لیے ایک ہزار روپے تک مزید جرمانہ عائد کر سکے گی۔

۲۲۔ اختیار سماعت جرم:- مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸) میں شامل کسی امر کے باوجود، سیشن عدالت، دفعہ ۲۰ کے تحت کسی بھی قابل سزا جرم کی، ڈائریکٹری جنرل یا مجاز افسر کی جانب سے دی گئی کسی تحریری شکایت پر اختیار سماعت کر سکے گی۔

(۲) سماعت مقدمہ اپیل وغیرہ کی اغراض کے لیے۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸) کے احکامات کا مناسب تبدیلیوں کے ساتھ اطلاق ہوگا۔

۲۳۔ ضبط شدہ اشیاء کو تلف کرنا:- اس ایکٹ کے تحت عدالت کی جانب سے کسی شخص کی سزایابی پر ضبط ہونے والا کوئی بھی سامان اتھارٹی کی جانب سے سزایاب شخص یا کاروباری شخص جیسی بھی صورت ہو کے خرچ پر مقررہ طریقہ کار میں تلف کیا جائے گا۔

۲۴۔ کمیٹی برائے تصفیہ شکایات:- اتھارٹی شکایت کے حل کے لیے ایک کمیٹی قائم کرے اور اتھارٹی کی جانب سے رجسٹریشن یا لائسنسز یا سرٹیفیکیشن سے انکار کی صورت میں پیدا ہونے والی شکایات، یا کسی بھی دیگر معاملے میں جیسا کہ صراحت کر دی گئی ہو کے ازالے کے لیے ایک نظام مرتب کرے گی۔

(۲) اتھارٹی شکایات کے حل کی کمیٹی سے متعلق اور اس سے متعلقہ معاملات کے لیے طریقہ کار کی صراحت کرے گی۔

(۳) اس ایکٹ کے تحت اتھارٹی یا مجاز افسر کے کسی بھی حکم سے متاثرہ کوئی بھی شخص یا کاروباری فرد، شکایت کے حل کی کمیٹی کے سامنے شکایت کے ازالے کے لیے مقررہ طریقہ کار میں تیس دنوں کے اندر درخواست دائر کر سکے گا۔

۲۵۔ اپیلٹ کمیٹی:- (۱) اتھارٹی ایک اپیلٹ کمیٹی کی تشکیل کرے گی اور شکایات کے حل کی کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف تمام اپیلوں کے ازالے کے لیے ایک طریقہ کار کی صراحت کرے گی۔

7/10

ٲٲٲ

ٲٲ

(ٲ) كوٲى بهى شخص يا كاروبار كرنے والا فرد جو شكائت حل كرنے والى كميٲى كے فيصلے سے متاثره هو ووه مذكوره حكم صادر كرنے كے تيس ايام كے اندر اپيل دائر كر سكه گا۔

ٲٲ۔ امتناع اختيار سماعت۔ فى الوقت نافذ العمل كسى بهى ديكر قانون ميں شامل كسى امر كے باوجود اور ماسوائے جيسا كه اس ايكٲ ميں فراهم كيا گيا هو كے علاوه، اس ايكٲ يا اس كے تحت وضع كرده قواعد يا ضوابط كے تابع كيا گيا كوٲى فيصله يا كارروائى كو كسى بهى ادارے كى طرف سے زير بحث نهين لاي ايا جائے گا يا ان كو كسى عدالت يا ٲريونل ميں چيلنج نهين كيا جائے گا، اور نه هى ايسے فيصلوں يا كارروائيوں كے خلاف كوٲى بهى حكم امتناع جارى كيا جائے گا۔

باب۔ پانچ

صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی

۲۷۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگی:۔ (۱) اتھارٹی،۔

(الف) صوبائی حکومتوں کے نامزد کردہ محکمے کو حکم دے گی کہ محکمے کے اختیار سماعت کے اندر رہتے ہوئے معاملات سے متعلق سرکاری کنٹرول سرگرمیوں کے سالانہ پروگرام کو مرتب کرے جیسا کہ دفعہ ۵ کی ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے اور اس کو اتھارٹی کو جمع کروائے، جو حسب ذیل کی وضاحت کرے گا۔

(اول) کنٹرول سرگرمیوں کی قسم جن کو انجام دیا جاتا ہے؛ اور

(دوم) پروگرام مرتب کرنے میں لاگو کردہ معیار؛

(ب) بورڈ کی جانب سے وضع کردہ یا کیئے گئے فیصلہ سازی کے فیصلوں اور رہنما اصولوں کی متعلقہ صوبوں میں ابلاغ کرنا جو ایس پی ایس اقدامات، جانوروں کی صحت، وکیزے مار ادویات کا تحفظ خوراک سے متعلق ہوں؛

(ج) صوبائی حکومتوں کی جانب سے اختیار کیئے جانے والے ایس پی ایس اقدامات کے اطلاق کی بابت مثالی ضوابط، رہنما اصولوں اور دستور کی اشاعت کرنا؛

(د) مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے درکار ایس پی ایس اقدامات سے متعلق صوبائی قوانین، قواعد اور ضوابط کی ہم آہنگی میں سہولت پیدا کرنا۔

ہنگامی حالات اور بحران کا انتظام

۲۸۔ ایس پی ایس حالات کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات :- (۱) جہاں صوبائی حکومت کا نامزدگی کرنے والا شعبہ یہ جانتا ہو کہ کوئی بھی ایشیا انسانی صحت، جانوروں کی صحت یا پودوں کی صحت کے لیے خطرے کا باعث ہے اور یہ کہ مذکورہ خطرہ کو اس ایکٹ یا فی الوقت نافذ العمل دیگر قوانین کی شرائط کے تحت کیئے گئے اقدامات کے ذریعے قابل اطمینان طور پر شامل نہیں رکھی جاسکتی ہیں تو (نامزد کردہ شعبہ حسب ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ اقدامات کو فوراً اختیار کرے گا جو صورت حال کی اہمیت پر منحصر ہوگا۔

(الف) ایشیا کا قومی مخرج ہونے کی صورت میں،۔

(اول) مارکیٹ میں رکھنے یا زرعی مصنوعہ یا زیر بحث غذا کے استعمال کی معطلی کو یقینی بنانا؛

(دوم) زرعی مصنوعہ، خوراک یا زیر بحث غذا کے لیے خصوصی شرائط بیان کرنا؛

(سوم) خطرے کے ذرائع کی شناخت کے لیے اپنی بہترین جدوجہد کا استعمال کرنا اور

مستقبل میں اس کے وقوع پذیر ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنا؛

(چہارم) دیگر کوئی مناسب عبوری اقدام؛ اور

(پنجم) اتھارٹی کو اس سلسلے میں کیئے گئے اقدامات سے آگاہ کرنا؛ اور

(ب) کسی بھی درآمد شدہ ایشیا کی صورت میں اتھارٹی اضافی اقدامات کر سکے گی:-

(اول) شناخت شدہ خطرے کے سرکاری کنٹرول کے لیے ماخذ یا ترسیل کے لیے

ذمہ دار ملک میں متعلقہ اتھارٹیز کو آگاہ کرنے کے لیے؛

(دوم) بازار میں رکھنے یا ان ایشیا کے استعمال کی معطلی کو یقینی بنانے کے لیے؛

(سوم) متعلقہ ملک سے ان ایشیا کی درآمد کو معطل کرنا اور نقل و حمل والے ملک سے

جہاں قابل اطلاق ہو؛

(چہارم) متعلقہ ملک سے ان ایشیا کی مستقبل میں درآمدگی کے لیے خصوصی شرائط بیان

کرنا؛ اور

- (۱) دیگر کوئی اقدام جو مناسب سمجھا گیا ہو؛
- (۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کی گئی کارروائی ذیل سے مشروط ہوگی:-
- (اول) بورڈ کی منظوری سے؛
- (دوم) صوبائی حکومتوں کے نامزد کردہ شعبہ کو معلومات سے؛ اور
- (ج) کاروبار کو چلانے والوں کو معلومات سے۔

باب - چھ

لیبارٹری ٹیسٹنگ کی سہولیات

- ۲۹۔ نمونوں کا لیبارٹری تجربہ:- (۱) دفعہ ۱۶ کے تحت تجزیہ کے لیے جمع کردہ نمونوں کا سرکاری کنٹرول زرعی کیمیکلز تجزیہ، جانوروں کی بیماریاں، تحفظ خوراک اور ایس پی ایس اقدامات کی جانچ اور دفعہ کے تحت نامزد کردہ لیبارٹری کے ذریعے کیا جائے گا۔
- (۲) اتھارٹی کسی بھی سرکاری یا نجی شعبے میں قائم کردہ تسلیم شدہ ٹیسٹنگ لیبارٹری یا کسی یونیورسٹی کی لیبارٹری یا تحقیقی تنظیم کی لیبارٹری یا وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے تمام ٹیسٹوں بشمول ایس پی ایس کے سرکاری کنٹرول کے لیے قائم کردہ لیبارٹری کو نامزد کرے گی۔
- (۳) اتھارٹی ٹیسٹنگ لیبارٹریاں قائم کر سکے گی یا کسی بھی موجودہ لیبارٹری کو تسلیم کر سکے گی جہاں یہ اس ایکٹ کے تحت کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے قرین مصلحت ہوں۔
- (۴) اتھارٹی اس دفعہ کے تحت نامزد کردہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی فہرست کو سرکاری جریدے میں شائع کرے گی اور برقرار رکھے گی۔
- (۵) تحفظ خوراک، جانوروں، کیڑے مکوڑوں یا ایس پی ایس شرائط وغیرہ کی سرکاری کنٹرول کے لیے دفعہ ۱۶ کے تحت جمع کیے گئے نمونے افسر مجاز کی جانب سے نامزد کردہ لیبارٹری کو ارسال کیے جائیں گے جو اپنے کارہائے منصبی کو ایسی قیود و شرائط میں بروئے کار لائے گی جیسا کہ صراحت کیے جائیں۔

۳۰۔ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کی منظوری:- (۱) تمام ٹیسٹنگ لیبارٹریاں جو تحفظ خوراک، ایس پی ایس شرائط اور ایگرو کیمیکل کے تجربے کے لیے نامزد کی گئی ہیں تعین معیار کی اہلیت کے لیے اور ٹیسٹنگ لیبارٹریاں جیسا کہ بین الاقوامی معیارات کی تنظیم کی جدید ترین آئی ایس او، معیار میں صراحت کیے گئے ہیں یا دیگر کسی بھی مامور کردہ معیار میں مقرر کیا گیا ہے، کے عمومی تقاضوں کو اختیار کرنے گی۔ مذکورہ اہلیت کی منظوری پاکستان قومی منظوری کونسل (PNAC) یا کسی بھی منظوری کی ہیت کی جانب سے دی جائے گی جو نمونے کے تجربے کے انعقاد کی غرض کے لیے بین الاقوامی لیبارٹری منظوری کارپوریشن (ILAC) باہمی شناختی انتظام (MRA) کا دستخط کنندہ ہے۔

(۲) لیبارٹریوں کو صرف جانچ کے طریقوں اور دائرہ کار کے لیے نامزد کیا جائے گا جو ان کی منظوری کی وسعت کے اندر ہوں۔

باب۔ سات

فنڈز، جانچ اور کھاتے

۳۱۔ فنڈ:- (۱) اتھارٹی کا ایک ناقابل سوخت فنڈ ہوگا جو قومی زرعی تجارت اور تحفظ خوراک اتھارٹی فنڈ کہلائے گا جسے اس ایکٹ کے تحت اس کے کارہائے منصبی کی انجام دہی کے لیے استعمال کیا جائے گا بشمول معاوضہ جات، تنخواہوں اور اتھارٹی کے تمام دیگر مصارف کی ادائیگی کے لیے۔

(۲) فنڈ ذیل پر مشتمل ہوگا:-

- (الف) وفاقی حکومت کی جانب سے کسی منصوبے کے آغاز کے لیے فراہم کردہ رقم؛
- (ب) رقم، جیسا کہ وفاقی حکومت وقتاً فوقتاً سالانہ میزانیہ میں یا بصورت دیگر عطا کرے؛
- (ج) وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی فنڈ یا برآمدات کو فروغ دینے کی بابت موصول ہونے والے کسی محصول سے کی گئی کوئی مالی رقم جیسا کہ برآمدات ترقیاتی فنڈ یا درآمدات سے؛

(د) ملکی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے فراہم کردہ عطیات امدادیں چندے، ہبہ، وقف اور گرانٹس؛

(ه) قرضے، امداد اور معاونت کسی بھی شکل میں اور کسی بھی ذرائع سے جیسا کہ بورڈ کی جانب سے منظوری دی گئی ہو؛

(و) فروخت سے آمدن، چندے کی رقم یا حق تصنیف اور اتھارٹی کے افسران، تحقیق کنندہ گان، مشیران اور ماہرین کی جانب سے پیش کردہ پیشہ ورانہ خدمات کے لیے معاوضے؛

(ز) وصولیاں اور فیسیں جو عائد کی گئیں ہیں اور کارہائے منصبی کی انجام دہی کے تحت وصول شدہ جرمانے؛

(ح) سرمایہ کاروں سے آمدن اگر کوئی ہو، وفاقی حکومت کی اسکیموں میں کی گئی ہو جیسا کہ بورڈ کی جانب سے منظوری دی گئی ہو۔

(ط) دیگر تمام رقوم اور املاک جو کسی بھی معاملے کی بابت کسی بھی طریقے سے اتھارٹی کو قابل ادا یا عطا ہوں؛ اور

(ک) ایک مالیاتی سال میں اصل مصارف پر کوئی بھی اضافی وصولیاں وفاقی مجموعی فنڈ میں ادا کی جائیں گی اور اصل اخراجات سے کوئی بھی کمی، تلافی وفاقی حکومت کی جانب سے کی جائے گی۔

(۳) سرکاری مالیاتی انصرام ایکٹ، ۲۰۱۹ کے تابع اتھارٹی کے تمام فنڈز اس کی جانب سے کسی بھی جدولی بنک میں برقرار رکھے گئے ایک یا زیادہ کھاتوں میں ملکی یا غیر ملکی کرنسی میں جمع کیے جائیں گے اور رکھے جائیں گے اور چلائے جائیں گے۔ جیسا کہ بورڈ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہو اور منظوری دی گئی ہو۔

۳۲۔ جانچ:- (۱) آڈیٹر جنرل پاکستان اتھارٹی کے کھاتوں کی سالانہ جانچ کرے گا۔

(۲) حکومت ذیلی دفعہ (۱) کے تحت جانچ کے علاوہ اتھارٹی کے کھاتوں کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم کے ذریعے سالانہ جانچ کروائے گی اور اتھارٹی کے کھاتوں کی کسی بھی وقت اضافی بیرونی جانچ کے انعقاد کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم کا تقرر کر سکے گی اور اس کی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔

52/

(۳) اتھارٹی کھاتوں کی تمام کتب اور دستاویزات مہیا کرے گی اور ایسی وضاحت اور معلومات فراہم کرے گی جیسا کہ جانچ کنندہ جانچ کے اغراض کے لیے طلب کرے۔

باب۔ آٹھ

عام اور متفرق احکامات

۳۳۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔ اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی قانون میں شامل کیس بھی شے کے باوصف موثر ہونگے کسی بھی عدم یکسانیت کی صورت میں اس ایکٹ کے احکامات رائج ہونگے۔

۳۴۔ تفسیح اور استثنا:۔ (۱) اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے بعد حسب ذیل قوانین اس تاریخ سے

منسوخ سمجھے جائیں گے جیسا کہ وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے مقرر کرے، یعنی:۔

(اول) پاکستان قرنطینہ نباتات ایکٹ، ۱۹۷۶ (نمبر ۷۵ بابت ۱۹۷۶)؛

(دوم) پاکستان قرنطینہ حیوانات (جانور اور جانوروں کی مصنوعات کی درآمد و برآمد)

آرڈیننس، ۱۹۷۹ (نمبر ۴۹ مجریہ ۱۹۷۹)؛

(سوم) زرعی حشرات کش دوا آرڈیننس، ۱۹۷۱ (نمبر ۱۲ مجریہ ۱۹۷۱)؛ اور

(چہارم) زرعی پیداوار (درجہ بندی و مارکیٹنگ) ایکٹ، ۱۹۳۷ (نمبر ابابت ۱۹۳۷)۔

(۲) کوئی بھی شے منسوخ شدہ ایکٹ کے کسی بھی احکامات یا اس کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کے تحت

انجام دی گئی ہو، کارروائی کی گئی ہو، لائسنس عطاء کیا گیا ہو، اجازت دی گئی ہو یا درخواست وضع کی گئی ہو ذمہ داریاں یا

واجبات جو ذمے لی گئی ہوں، حقوق اور اثاثے حاصل کیئے گئے، اشخاص تقرر کیئے گئے ہوں یا مجاز کیئے گئے ہوں، اختیار

سماعت یا اختیارات عطاء کیئے گئے ہوں، حکم جاری کیا گیا ہو، جاری رہیں گے اور ایسے سمجھے جائیں گے گویا کہ وہ اس

ایکٹ کے تحت کیئے گئے ہوں یا فراہم کیئے گئے ہوں تا وقتیکہ منسوخ کیئے گئے ہوں یا ترمیم کی گئی ہو یا بصورت دیگر۔

۳۵۔ اراکین، افسران اور عہدیداران وغیرہ سرکاری ملازم ہوں گے:- اتھارٹی کا سرپرست اعلیٰ جنرل اراکین، افسران جب اس ایکٹ کے کسی بھی احکامات یا اس کے تحت وضع کردہ ضوابط کے تحت عمل انجام دے رہے ہوں یا رہنے کا ادارہ رکھتے ہوں تو، مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۲۱ کے مفہوم میں سرکاری ملازم سمجھے جائیں گے۔

۳۶۔ شماریاتی ڈیٹا اور معلومات وغیرہ تک رسائی:- فی الوقت نافذ العمل دیگر کسی بھی قانون میں شامل کسی بھی شے کے باوصف اتھارٹی کو درآمدات اور برآمدات کی اشیاء سے متعلق اعداد و شمار اور معلومات تک رسائی اور حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا جو کسی کاروبار کے چلانے والے کی بنیاد پر ہوں جو سرکاری استعمال اور تجزیے کے لیے ضروری ہوں۔

۳۷۔ کارروائیوں کی جوازیت:- کوئی بھی عمل کارروائیاں صرف آسامی کی موجودگی یا اتھارٹی، بورڈ، سائنسی کمیٹی یا مشاورتی کمیٹی کے تشکیل میں نقص کی وجہ سے باطل نہ ہوں گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ نقص کو بورڈ یا کمیٹی جیسی بھی صورت ہو کی جانب سے چھ ماہ کے اندر کیا جائے گا۔

۳۸۔ شعبہ جات کی موقوفی:- (۱) دفعہ ۳۴ کے تحت مقرر کردہ تاریخ پر شعبہ قرظین حیوانات اور شعبہ تحفظ نباتات موقوف سمجھے جائیں گے۔

(۲) مقرر کردہ تاریخ پر منسلک شعبہ جات کے تمام اثاثے واجبات، حقوق، ذمہ داریاں اجارہ، لائسنس اور مفادات اتھارٹی کے قیام پر اس کو منتقل شدہ سمجھے جائیں گے ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے صراحت کی جائیں۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) میں صراحت کردہ ہر ایک شعبے کو ایک ناقابل تنسیخ چٹاؤ کا اختیار دیا جائے گا کہ اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے چھ ماہ کے اندر یا تو وہ انہی قیود و شرائط پر جو ان پر قابل اطلاق ہیں ملازمت جاری رکھیں یا اتھارٹی کی ملازمت میں ضم ہونے کا اختیار استعمال کریں:

مگر شرط یہ ہے کہ وہ تمام ملازمین جو اس ذیلی دفعہ کے تحت چننے کے اختیار کو چھ ماہ کے اندر استعمال نہیں کرتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سرپلس پول کو منتقل شدہ سمجھے جائیں گے۔

✓

۳۹۔ عبوری مدت :- شعبہ تحفظ نباتات اور شعبہ قرنطین حیوانات کی جانب سے تجارت سے متعلق انجام دیے گئے کارہائے منہجی دفعہ ۳۴ کے تحت مقرر کردہ تاریخ سے چھ ماہ کی میعاد تک جاری رہیں گے جس کے دوران اتھارٹی اپنے ضوابط وضع کرے گی اور ملازمین کا تقرر کرے گی۔

۴۰۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار :- اس ایکٹ سے مشروط وفاقی حکومت سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی۔

۴۱۔ ضوابط وضع کرنے کا اختیار :- اتھارٹی وفاقی حکومت کی سابقہ منظوری سے سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے اس ایکٹ کے اغراض کو عمل میں لانے کے لیے ضوابط وضع کر سکے گی۔

۴۲۔ ڈیٹا کی رازداری :- (۱) معلومات تک رسائی ایکٹ، ۲۰۱۷ء (نمبر بابت ۲۰۱۷ء) سے مشروط اتھارٹی کی جانب سے اس ایکٹ کے تحت سرکاری کنٹرول کے دوران کسی بھی کاروبار چلانے والے کی بابت حاصل کردہ معلومات کو کاروبار چلانے والے کی پیشگی تحریری منظوری کے بغیر افشاں نہیں کیا جائے گا، ماسوائے :-
(الف) بورڈ کی ہدایات کی مطابقت میں اس حد تک جو اس ایکٹ کی اغراض کے لیے ضروری ہو؛
(ب) اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جرم کی کارروائیوں کی اغراض کے لیے یا مذکورہ کارروائیوں کی کسی رپورٹ کے لیے؛ یا

(ج) مجاز اختیار سماعت کی عدالت کے حکم کی تعمیل میں۔

(۲) کوئی بھی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کی خلاف ورزی میں معلومات افشاں کرتا ہے تو وہ اس ایکٹ کے احکامات یا اس کے تحت وضع کردہ ضوابط کی مطابقت میں غلط روی کی کارروائیوں کا مستوجب ہوگا۔

۴۳۔ ازالہ مشکلات :- اگر اس ایکٹ کے کسی بھی حکم کو موثر بنانے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو وفاقی حکومت ایسا حکم جاری کر سکتی ہے، جو اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہو جیسا کہ اس کو مذکورہ ازالہ مشکل کے لیے ضروری یا قرین مصلحت نظر آئے۔

بیان اغراض و وجوہ

شعبہ تحفظ نباتات (DPP) اور شعبہ قرنطینہ حیوانیات پاکستان کے داخلی اور خارجی راستوں میں زرعی تجارت کو منضبط کرنے کے لیے خاص طور پر ذمہ دار ہیں ایک ہی وقت میں زراعت کی بنیاد پر برآمدات متعدد بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنز کے تابع ہیں، اگرچہ پاکستان ان عالمی معاہدوں اور فورمز کا دستخط کنندہ ہے۔ ہمارے فرسودہ قوانین اور محدود ادارہ جاتی اصلاحات نے بین الاقوامی خریداروں کے لیے مطلوبہ تعمیل کے معیارات کو نافذ کرنا مشکل بنا دیا ہے، مزید برآں ہماری پالیسی فریم ورک بین الاقوامی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر پاکستان کی برآمدات کو اکثر مختلف منڈیوں میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا معیار کے مسائل یا کیمیائی باقیات کی موجودگی کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اس پیش منظر کے خلاف وزارت تحفظ خوراک اور تحقیق (NFSR) نے ایک نئے قانون کو متعارف کرا کے اصلاحات کا آغاز کیا ہے جو وسیع پیمانے پر زرعی تجارت کا احاطہ کرتا ہے اور ابھرتے ہوئے بین الاقوامی معیارات کو پورا کرنے کے لیے دفعات کو شامل کرتا ہے اس میں مقامی حیوانات اور نباتات کا تحفظ شامل ہے جب کہ عالمی تحفظ صحت اور تحفظ صحت نباتات SPS اقدامات کے ساتھ منسلک ایک ریگولیٹری فریم ورک تیار کرنا شامل ہے۔

اس کا مقصد قومی زرعی تجارت اور تحفظ خوراک اتھارٹی NAFSA کا قیام ہے جو ایک اسٹریٹجک کے طور پر کام کرے گی اور پاکستان کے ریگولیٹری انفراسٹرکچر کو جدید بنانے میں ضروری اقدامات کرے گی۔ ان اصلاحات سے زراعت پر مبنی تجارت کو بڑھانے اعلیٰ درجے کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو بہتر بنانے اور مقامی حیاتیاتی تنوع بشمول نباتات اور حیوانات دونوں کے تحت کو یقینی بنانے کی توقع ہے۔

(راناتھویر حسین)

وفاقی وزیر